


دَعْوَاتِ اِلَى اللّٰهِ

قرآن و سنت کی روشنی میں

Daawat-e-ilallah

Qur'aan-o-Sunnat ki Roshni mien

ابوزید ضمیر



دعوت، ایک مختصر تعارف

Daawat, Ek Mukhtasar Ta'aaruf

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

[يوسف: ١٠٨]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آپ کہہ دیجیے: یہی میری راہ ہے، میں - (لوگوں کو) اللہ کی طرف دلیل و برہان کی روشنی میں بلاتا ہوں، خود میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، اور اللہ کی ذات بے عیب ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں

ہوں۔ [یوسف: ١٠٨]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aap keh dijiye: Yahi meri raah hai, mein (logon ko) Allah ki taraf daleel o burhan ki roshni mein bulata hoon, khud mein bhi aur meri itteba karne wale bhi, aur Allah ki zaat be aib hai aur mein mushrikeen mein se nahi hoon. [Yusuf: 108]

قال ابن تيمية رحمته الله:

«الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ هِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ وَمَا جَاءَتْ بِهِ رُسُلُهُ، بِتَصْدِيقِهِمْ فِيمَا أَخْبَرُوا بِهِ وَطَاعَتِهِمْ فِيمَا أَمَرُوا، وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الدَّعْوَةَ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَالدَّعْوَةَ إِلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَالدَّعْوَةَ إِلَى أَنْ يَعْبُدَ الْعَبْدُ رَبَّهُ كَأَنَّهُ يَرَاهُ. فَإِنَّ هَذِهِ الدَّرَجَاتِ الثَّلَاثَ الَّتِي هِيَ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ وَالْإِحْسَانُ دَاخِلَةٌ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ» بَعْدَ أَنْ أَجَابَهُ عَنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ». [مجموع الفتاوى] (١٥٧ / ١٥)

ابن تیمیہ رحمته الله فرماتے ہیں:

اللہ کی طرف دعوت دراصل اللہ پر ایمان کی دعوت ہے، اور اسی طرح ان تمام چیزوں پر جنہیں لے کر اللہ کے رسول آئے، اس طرح کہ ان کی تمام باتوں کی تصدیق کی جائے اور تمام احکام کی تعمیل کی جائے۔ اس اعتبار سے دعوت شہادتین، نماز قائم کرنے، زکاۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے اور حج کرنے، سب کو شامل ہے؛ اسی طرح دعوت اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح یہ دعوت اس بات کو بھی مستضمن ہے کی بندہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا اسے دیکھ رہا ہے۔ پس یہ تین مراتب یعنی اسلام، ایمان اور احسان دین ہی میں داخل ہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول رحمته الله نے (جبریل رحمته الله کے) تین سوالات کا جواب دینے کے بعد فرمایا: یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ [مجموع الفتاوی] (١٥٧ / ١٥)

Ibne Taimiyah رحمته الله farmate hain:

Allah ki taraf Daawat dar-asl Allah par imaan ki Daawat hai, aur isi tarah un tamam cheezon par jinhein le kar Allah ke Rasool aaye, is tarah ke un ki tamaam baton ki tasdeeq ki jaye aur tamaam ehkaam ki tameel ki jaye. Is etebaar se Daawat shahadatain, namaz qaim karne, Zakaat adaa karne, Ramazan ke roze rakhne aur Hajj karne, sab ko shaamil hai; Isi tarah Daawat Allah par, Farishton par, Allah ki Kitabon par, uske Rasoolon par, mout ke baad dobarah jee uthne par aur taqdeer ki bhalai aur buraiee par imaan ko bhi shamil hai. Isi tarah yeh Daawat is baat ko bhi mutazamin hai ki bandah Allah ki ibadat is tarah kare ke goya use dekh raha hai. pas ye teen maraatib yaani Islam, Imaan aur ehsaan deen hi mein daakhil hain jaisa ke sahih hadees mein hai ke Allah ke Rasool رحمته الله ne (Jibreel رحمته الله ke) teen sawalaat ke jawab daine ke baad farmaya: yeh Jibreel the jo tumhe tumhara deen sikhane ke liye aaye the. [Majmoo ul Fatawa 157/15]

قال تعالى:

﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المؤمنون: ۷۳]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یقیناً آپ انھیں صراطِ مستقیم ہی کی طرف بلا رہے ہیں۔ [المؤمنون: ۷۳]

1-Daawat

Allah Ta'ala ne farmaya:

Yaqaenan aap unhen sirat e mustaqeem hi ki taraf bula rahe hain.

[al-Mominoon 73]

قال ﷺ:

«مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا».

[م: العلم ۱۶ - (۲۶۷۴)] عن أبي هريرة

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

جو شخص ہدایت کی طرف بلائے اس کو ہدایت پر چلنے والوں کا بھی ثواب ملے گا اور چلنے والوں کا ثواب کچھ کم نہ ہو

گا۔ [مسلم]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Jo shakhs hidaayat ki taraf bulaye us ko hidaayat par chalne walon ka bhi sawab milega aur chalne walon ka sawab kuch kam nah hoga. [Muslim]

قال تعالى:

﴿وَمَنْ يُضِلِّمْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ [الكهف: ۱۷]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور جسے وہ (یعنی اللہ) گمراہ کر دے نا ممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ [الكهف: ۱۷]

2-Irshaad

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur jise woh (yaani Allah) gumraah karde na-mumkin hai ke aap us ka koi kaarsaaz aur rehnuma pa saken. [al-Kabaf 17]

قال ﷺ:

«وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة»

(ت حب) عن أبي ذر. [صحيح الجامع ۲۹۰۸] (صحيح)

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

بھٹک جانے والی جگہ میں تمہارا کسی آدمی کو راستہ دکھانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ [ترمذی، ابن حبان]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Bhatak jane wali jagah mein tumhara kisi aadmi ko rasta dikhana bhi tumhare liye sadqa hai. [Tirmizi, Ibne Hibban]

قال تعالى:

﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ۵۲]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور بیشک (اے نبی،) آپ راہ راست ہی کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ [الشورى: ۵۲]

3-Hidaayat

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur beshak (aye Nabi) aap raah raast hi ki taraf rahnumai kar rahe hain.

[ash-Shura 52]

قال ﷺ:

«فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ».

[خ: الجهاد والسير ۳۰۰۹ - م: فضائل الصحابة ۳۴ - (۲۴۰۶)] اللفظ للبخاري

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

اللہ کی قسم! اگر تمہارے ذریعہ اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ [بخاری و مسلم] الفاظ بخاری کے ہیں۔

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Allah ki qasam! agar tumhare zariye Allah ek shakhs ko bhi hidayat dede to yeh tumhare liye surkh oonton se behtar hai. [Bukhari w Muslim] alfaẓ Bukhari ke hain

قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الصف: ۱۰]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے ایمان والو! کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچالے؟ [الصف: ۱۰]

4-Tadleel w dalalat

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aye imaan walo! kya mein tumhe woh tijaarat batla doon jo tumhe dard-naak azaab se bacha le? [as-Saff 10]

قال ﷺ:

«مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ». [م: الإمامة ۱۳۳ - (۱۸۹۳)] عن ابن مسعود.

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

جو شخص کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو۔ [مسلم]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Jo shakhs kisi neki ki taraf rahnumai kare use utna hi sawab milega jitna neki karne wale ko. [Muslim]

قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ۶۷]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے (اُسے) پہنچا دیجئے۔ [المائدة: ۶۷]

5-Tableegh

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aye Rasool, jo kuch aap ki taraf aap ke rab ki janib se nazil kiya gaya hai (use) pahuncha dijiye. [al-Maidah 67]

قال ﷺ:

«فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ».

[خ: الحج ۱۷۴۱ - م: القسامة والمحاربين والقصاص والديات ۳۰ - (۱۶۷۹)]

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

پس (میرا یہ پیغام) موجود لوگ غیر موجود لوگوں کو پہنچادیں۔ [بخاری و مسلم]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Pas (mera yeh paigham) maujood log gair maujood logon ko pahuncha den.

[Bukhari w Muslim]

۶۔ تعلیم و تربیت و تدریس

قال تعالى:

﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: ۶۶]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اُس سے (یعنی خضر سے) موسیٰ ﷺ نے کہا: میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھادیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ [الکھف: ۶۶]

6-Taleem o tarbiyat w tadrees

Allah Ta'ala ne farmaya:

Usse (yaani Khizr se) Moosa ﷺ ne kaha: mein aap ki taabedaari karoon ke aap mujhe woh nek ilm sikha den jo aap ko sikhaya gaya hai? [al-Kahaf 66]

قال ﷺ:

«عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ».

(حم ت طب ك) عن سيرة. [صحيح الجامع ۴۰۲۵] (صحيح)

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

سات برس کے بچے کو نماز کی تعلیم دو۔ [مسند احمد، ترمذی، طبرانی، حاکم]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Saat baras ke bachche ko namaz ki taleem do.

[Musnad Ahmad, Tirmizj, Tabrani, Hakim]

قال تعالى:

﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ^(۱) بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران: ۷۹]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

بلکہ تم سب ربانی ہو جاؤ؛ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ [آل عمران: ۷۹]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Balki tum sab rabbani ho jao: tumhare kitab sikhane ke baa'is aur tumhare kitab padhne ke sabab. [Aal e Imran 79]

قال ﷺ:

«وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَالْحَقَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ».

[م: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۳۸ - (۲۶۹۹)]

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب پڑھیں اور آپس میں اس کی مددگار کریں (یعنی سیکھیں سکھائیں) تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انھیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود (مقرب فرشتوں) میں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ [مسلم]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Jo log Allah ke kisi ghar mein jamaa hokar Allah ki kitaab padhen aur aapas mein us ki madarisat karen (yaani seekhen sikhaye) to un par sakeenat naazil hoti hai, rehmat unhein dhaanp leti hai, farishte un ko gher lete hain aur Allah ta'ala apne paas maujood (muqarrab farishton) mein un ka tazkira karta hai. [Muslim]

^۱ قال البغوي: وَالرَّبَّانِيُّونَ الَّذِينَ جَمَعُوا مَعَ الْعِلْمِ الْبَصَارَةَ بِسِيَاسَةِ النَّاسِ. [تفسير البغوي - ط التراث (۱/ ۴۶۳)]

قال تعالى:

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ۱۲۹]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے ہمارے رب، ان میں، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے؛ یقیناً تو غلبہ والا حکمت والا ہے۔ [البقرة: ۱۲۹]

7-Tazkiyah

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aye hamare rab, in mein, unhi mein se ek rasool bhej jo un ke pas teri aayatain padhe, unhe kitaab o hikmat ki taleem de aur unhe pak kare; yaqeenan tu ghalbe wala hikmat wala hai. [al-Baqarab 129]

قال ﷺ:

«اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا»^(۱)

[م: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۷۳ - (۲۷۲۲)]

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

اے اللہ! میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اسے پاک کر دے، کیونکہ تو ہی اس کا بہتر پاک کرنے والا ہے؛ تو ہی اس کا ولی ہے اور تو ہی اس کا مولیٰ ہے۔ [مسلم]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Aye Allah! mere nafs ko taqwa ataa farma aur use pak kar de, kyunke tu hi us ka behtar paak karne wala hai; tu hi us ka wali hai aur tu hi us ka maula hai. [Muslim]

^۱ قال الصنعاني ﷺ: (أنت وليها) سلطانها والمتصرف فيها (ومولاهها) مالك أمرها؛ فلك عليها الولاياتان ولاية السلطان وولاية الملك.

[التنوير شرح الجامع الصغير (۳/ ۱۷۸)]

۸- امر بالمعروف ونہی عن المنکر

قال تعالى:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ۷۱]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست و مددگار ہیں؛ وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ [التوبة: ۷۱]

8-Amr bil maroof w nahi anil munkar

Allah Ta'ala ne farmaya:

Momin mard aur momin aurtein aapas mein ek dusre ke dost w madadgar hain; woh ek dusre ko bhalai ka hukm dete hain aur buraiyon se rokhte hain.

[at-Taubah 71]

قال ﷺ:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ». (حم ت) عن حذيفة [صحيح الجامع ۷۰۷۰] (حسن)

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم معروف (یعنی بھلائی) کا حکم دو اور منکر (یعنی برائی) سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے؛ پھر تم اللہ سے دعا کرو لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ [مسند احمد، ترمذی]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Us zaat ki qasam jis ke haath mein meri jaan hai! tum maroof (yaani bhalai) ka hukm do aur munkar (yaani burayee) se roko, warna qareeb hai ke Allah Ta'ala tum par apna azaab bhej de; phir tum Allah se dua karo lekin tumhari duAyen qabool na ki jayen. [Musnad Ahmad, Tirmizi]

قال تعالى:

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [هود: ۸۸]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے ہی کا ہے اور میری توفیق بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ [ہود: ۸۸]

9-Islaah

Allah Ta'ala ne farmaya:

Mera iradah to apni taaqat bhar islaah karne hi ka hai aur meri taufeeq bhi Allah hi ki madad se hai. [Hood 88]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مَنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ».

(حم د ت) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. [صحيح الجامع ۲۵۹۵] (صحيح)

ابو درداء رضي الله عنه کہتے ہیں

کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور زکاۃ سے بڑھ کر ہے؟ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں، آپ نے فرمایا: آپس میں باہم صلح کرادینا! اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ تو (دین کو) مونڈھ دینے والی چیز ہے۔ [مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی]

Abu Darda رضي الله عنه kehte hain ke Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Kya mein tumhe woh baat na batao jo darje mein roze, namaz aur zakat se badh kar hai? logon ne kaha: kyun nahi, aap ﷺ ne farmaya: aapas mein baahum sulah kara dena! aur aapas ki ladai aur phoot to (deen ko) mondhd dene wali cheez hai.

[Musnad Ahmad, Abu Dawood, Tirmizij]

قال تعالى:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [المائدة: ۱۵]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے اہل کتاب! یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آچکا ہے جو تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم (اب تک) چھپاتے رہے ہو۔ [المائدة: ۱۵]

10-Tabyeen

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aye ahle kitaab! yaqinan tumhare pas hamara rasool aa chuka hai jo tumhare samne Allah ki kitaab ki bahot si aisi baatein zahir kar raha hai jinhein tum (ab tak) chupate rahe ho. [al-Maidah 15]

عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا.

[م: الصلاة ۶۲ - (۴۰۴)]

ابو موسیٰ اشعری رضي الله عنه فرماتے ہیں:

اللہ کے رسول ﷺ نے ہمارے درمیان خطبہ دیا تو آپ نے ہمیں سنت کا طریقہ سکھایا اور نماز کی تعلیم دی۔

[مسلم]

Abu Moosa رضي الله عنه kehte hain:

Allah ke Rasool ﷺ ne hamare darmiyan khutba diya to aap ne hamein sunnat ka tareeqa sikhaya aur namaz ki taleem di. [Muslim]

قال تعالى:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ۱۹]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، جو تمہارے لئے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر آیا ہی نہیں، پس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ [المائدة: ۱۹]

11-Inzaar w tabsheer

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aye ahle kitaab, hamara rasool tumhare pas rasoolon ki aamad ke ek waqfe ke baad aa pahuncha hai, jo tumhare liye saaf saaf bayan kar raha hai taake tum ye na keh sako ke hamare paas to koi basheer w nazeer aaya hi nahi, pas ab to yaqeenan khushkhabri sunane wala aur aagah karne wala aa pahuncha aur Allah Ta'ala har cheez par qaadir hai. [al-Maidah 19]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «يَا صَبَاحَاهُ»، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، قَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ، أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» فَقَالَ أَبُو هَبَبٍ: تَبَّ لَكَ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي هَبَبٍ﴾. [خ: تفسير القرآن ٤٨٠١ - م: الإيمان ٣٥٥ - (٢٠٨)]

ابن عباس رضي الله عنه نے بیان کیا

کہ ایک دن اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا: یا صباحاہ! اس آواز پر قریش جمع ہو گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے اگر میں تم سے کہوں کہ دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا: ہم ضرور آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: پھر میں تمہیں ایک سخت ترین عذاب کے آنے سے پہلے خبردار کر رہا ہوں۔ اس پر ابو لہب کہنے لگا: تیری بربادی ہو! کیا بس اتنی سی بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت «تَبَّتْ يَدَا أَبِي هَبَبٍ» نازل فرمائی۔ [بخاری و مسلم]

Ibne Abbas رضي الله عنه ne bayan kiya ke:

Ek din Allah ke Rasool صلى الله عليه وسلم safa pahadi par chadhe aur pukara: ya sabaaha! is aawaz par quraish jama ho gaye aur poocha kya baat hai? Nabi e Kareem صلى الله عليه وسلم ne farmaya ke tumhari kya raye hai agar mein tum se kahoon ke dushman subah ke waqt ya shaam ke waqt tum par hamla karne wala hai to kya tum meri baat ki tasdeeq nahi karo ge? unhon ne kaha: hum zaroor aap ki tasdeeq karen ge. Aap صلى الله عليه وسلم ne farmaya: phir mein tumhe ek sakht tareen azaab ke aane se pehle khabardaar kar raha hoon. is par Abu Lahab kehne laga: teri barbadi ho! kya bas itni si baat ke liye tune hamein jama kiya tha? is par Allah Ta'ala ne aayat ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي هَبَبٍ﴾ nazil farmai. [Bukhari w Muslim]

قال ﷺ:

«أَبَشِّرُوا وَبَشِّرُوا النَّاسَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

(حم) [الصحيحه ١٣١٤] (صحيح)

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

خوش ہو جاؤ، اور لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ جو شخص بھی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ [مسند احمد]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Khush hojao, aur logon ko khushkhabri suna do ke jo shakhs bhi sachche dil se Laa ilaaha illallah ki gawahi dega woh zaroor jannat mein dakhil hoga.

[Musnad Ahmad]

۱۲- وعظ

قال تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ۱۳]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور جب لقمان نے وعظ کہتے ہوئے اپنے بیٹے سے کیا: اے میرے بیٹے! اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا؛ بیشک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ [لقمان: ۱۳]

12-Waaz

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur jab Luqman ﷺ ne waaz kehte huwe apne bete se kaha: Aye mere bete! Allah ke sath shirk na karna beshak shirk bada bhaari zulm hai. [Luqman 13]

عَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ. (حم د ت ه ك ح ب هق) [صحيح الترغيب ۳۷ - الصحيحة ۹۳۷, ۲۷۳۵] (صحيح)

عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ہمیں نماز فجر کے بعد ایک موثر و عظیم فرمایا جس سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور دل لرز گئے۔ [مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، بیہقی]

Irbaḥ bin Sariyah رضی اللہ عنہ kehte hain ke:

Rasoolullah ﷺ ne ek din hamein namaz e fajr ke baad ek muassir waaz farmaya jis se ankhen ashkbaar hogai aur dil laraz gaye.

[Musnad Ahmad, Abu Dawood, Tirmizi, Ibne Majah, Ibne Hibban, Baihaqi]

قال تعالى:

﴿فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾

[الاعراف: ۷۹]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اس وقت (صالح ؑ) ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور فرمانے لگے: اے میری قوم، میں نے تو تم سب کو اپنے رب کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی، لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ [الاعراف: ۷۹]

13Naseehat

Allah Ta'ala ne farmaya:

Us waqt (Saaleh ؑ) un se munh mod kar chal diye aur farmane lage: Aye meri qaum, mein ne to tum sab ko apne rab ka hukm pahuncha diya tha aur mein ne tumhe naseehat bhi ki, lekin baat ye hai ke tum log naseehat karne walon ko pasand nahi karte. [al-Aaraaf 79]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ» قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ».

[خ: الجنائز ۱۲۴۰ - م: السلام ۵ - (۲۱۶۲)] عن أبي هريرة واللفظ لمسلم

سیدنا ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے

کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا: وہ کیا ہیں اللہ کے رسول؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تو مسلمان کو ملے تو اس کو سلام کر اور جب وہ تیری دعوت کرے تو قبول کر اور جب وہ تجھ سے مشورہ چاہے تو اچھی صلاح دے جب وہ چھینکے اور «الْحَمْدُ لِلَّهِ» کہے تو تو بھی اس کا جواب دے (یعنی «يَرْحَمَكَ اللَّهُ» کہہ) اور جب وہ بیمار ہو تو اُس کی بیمار پُرسی کو جا اور جب وہ مر جائے تو اُس کے جنازے کے ساتھ جا۔ [بخاری و مسلم] الفاظ مسلم کے ہیں۔

Sayyidna Abu Huraira رضي الله عنه se riwayat hai ke:

Allah ke rasool ﷺ ne farmaya: musalman ke musalman par che haq hain. logon ne arz kiya: woh kya hain Allah ke rasool? aap ﷺ ne farmaya: jab tu musalman ko mile to us ko salaam kar aur jab woh teri Daawat kare to qabool kar aur jab wo tujh se mashwara chahe to achi salah de jab wo chinke aur «الْحَمْدُ لِلَّهِ» kahe to tu bhi us ka jawab de (yaani «يَرْحَمَكَ اللَّهُ» keh) aur jab wo beemaar ho to uski beemaar-pursi ko ja aur jab wo mar jaye to uske janaze ke sath ja.

[Bukhari w Muslim] alfaaz Muslim ke hain.

قال تعالى:

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ۵۵]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور تذکیر کرتے رہیں؛ یقیناً یہ تذکیر ایمان والوں کو نفع دے گی۔ [الذاریات: ۵۵]

14-Tazkeer

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur tazkeer karte rahen; yaqeenan yeh tazkeer imaan walon ko nafaa degi.

[az-Zaariyaat 55]

قال ﷺ:

«مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ النَّاسَ يَوْمًا حَتَّى إِذَا فَاضَتِ الْعُيُونُ، وَرَقَّتِ الْقُلُوبُ».

[خ: تفسیر القرآن ۴۷۲۶ - م: الفضائل ۱۷۰ - (۲۳۸۰)] عن ابن عباس

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

موسیٰ ﷺ اللہ کے رسول تھے، ایک دن انھوں نے لوگوں کو (یعنی بنی اسرائیل کو) ایسا وعظ فرمایا کہ لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور دل نرم ہو گئے۔ [بخاری و مسلم]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Moosa ﷺ Allah ke rasool the, ek din unhon ne logon ko (yaani bani Isra'eel ko) aisa waaz farmaya ke logon ki ankhien ashkbaar ho gayein aur dil naram ho gaye.

[Bukhari w Muslim]

قال تعالى:

﴿وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

[العصر: ۱-۳]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

زمانے کی قسم، بیشک انسان خسارے میں ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور (جنہوں نے) ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔

[العصر: ۱-۳]

15-Wasiyyat

Allah Ta'ala ne farmaya:

Zamane ki qasam, beshak insaan khasare mein hai. siwaye un logon ke jo imaan laaye aur nek amal karte rahe aur (jinhon ne) ek dusre ko haq ki wasiyyat ki aur ek dusre ko sabr ki wasiyyat karte rahe. [al-Asr 1-3]

قال ﷺ:

«أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

(حم د ت ه ك) عن العرياض بن سارية [صحيح الجامع ٢٥٤٩] (صحيح)

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، (امیر کی بات) سننے اور (اُس کی) اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، تم اس سے چمٹ جانا اور دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا؛ اور خبردار! دین میں نکالی گئی نئی چیزوں سے بچتے رہنا؛ اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ [مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Mein tumhe Allah se darne, (Ameer ki baat) sunne aur (uski) itaa'at karne ki wasiyyat karta hoon, khaa woh koi habshi gulam hi kyun na ho, is liye ke tum mein se jo shakhs mere baad zinda rahe ga wo bahut se ikhtilafaat dekhe ga, to tum meri sunnat aur mere hidayat yafta khulafa e rashideen ke tareeqe ko lazim pakadna, tum us se chimat jana aur danton se mazboot pakad lena aur khabardaar! deen mein nikaali gayi nai cheezon se bachte rehna is liye ke har nai cheez bid'at hai, aur har bid'at gumraahi hai.

[Musnad Ahmad, Abu Dawood, Tirmizi, Ibne Majah]



دعوت کی فضیلت و اہمیت

**Daawat ki Fazeelat
wa Ahammiyyat**

قال تعالى:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران ۱۱۰]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ [آل عمران ۱۱۰]

Allah Ta'ala ne farmaya:

tum behtareen ummat ho jo logon ke liye paida ki gayi hai tum naik baton ka hukum karte ho aur buri baton se rokte ho aur Allah taala par imaan rakhte ho.

[aale Imran 110]

-امام اور اسوۂ حسنہ

عَنْ مَسْرُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَرَأْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ﴾ [النحل: ۱۲۰] قَالَ: فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنَّ مُعَاذًا كَانَ أُمَّةً قَانِتًا». قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ فَأَعَادَ، ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْأُمَّةُ؟ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْقَانِتُ الَّذِي يُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ». [المستدرک للحاکم رقم ۳۳۶۷]

مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیت ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ﴾ «ابراہیم رضی اللہ عنہ ایک امت تھے، اللہ کے فرمانبردار بندے تھے۔» پڑھی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی ایک امت تھے اور اللہ کے فرمانبردار بندے تھے۔ لوگوں نے دوبارہ اس آیت کا اعادہ کیا تو انھوں نے بھی اپنی بات پھر دوہرائی۔ اس کے بعد فرمایا: کیا تم جانتے ہو امت سے مراد کون ہے؟ [پھر خود ہی فرمایا:] وہ شخص جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے؛ اور قانت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا فرمانبردار ہو۔ [حاکم]

1-Imam aur uswa-e-hasanah

Masrooq farmate hain:

mein ne Abdullah bin Masood رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ke samne yeh aayat ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ﴾ Ibrahim رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ek ummat the, Allah ke farmabardar bande the padhi to Ibne Masood رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ne kaha: Muaz bin Jabal رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bhi ek ummat the aur Allah ke farmabardar bande the. logon ne dobarah is aayat ka iada kiya to unhon ne bhi apni baat phir dohrai. Uske baad farmaya: kya tum jante ho ummat se murad kaun hai? [phir khud hi farmaya] woh shakhs jo logon ko khair ki taleem de; aur qaanit woh hai jo Allah aur us ke Rasool ﷺ ka farmabardar ho. [Hakim]

۲- دین اسلام کا ایک اہم حصہ

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ الْإِسْلَامُ سَهْمٌ، وَالصَّلَاةُ سَهْمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ، وَحَجُّ الْبَيْتِ سَهْمٌ، وَالصِّيَامُ سَهْمٌ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَهْمٌ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ».

[مسند البزار ۲۹۲۷، مسند أبي يعلى ۵۲۳] [صحيح الترغيب ۷۴۱] (حسن لغیره)

حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دین اسلام کے آٹھ حصے ہیں، اسلام ایک حصہ ہے (یعنی شہادتین)، نماز ایک حصہ ہے، زکاۃ ایک حصہ ہے، حج بیت اللہ ایک حصہ ہے، روزہ ایک حصہ ہے، بھلائی کا حکم دینا ایک حصہ ہے، برائی سے روکنا ایک حصہ ہے اور جہاد فی سبیل اللہ بھی ایک حصہ ہے، اور وہ شخص بڑے خسارے میں ہے جس کے پاس [ان میں سے] کوئی حصہ نہیں۔ [بزار، ابو یعلیٰ]

2-Deen Islam ka ek ahem hissa

Huzaiifa رضی اللہ عنہ se riwayat hai ke:

Nabi e Kareem ﷺ ne farmaya: deen e Islam ke aath hisse hain, Islam ek hissa hai (yaani shahadatain), namaz ek hissa hai, zakat ek hissa hai, hajje baitullah ek hissa hai, roza ek hissa hai, bhalai ka hukm dena ek hissa hai, burai se rokna ek hissa hai aur jihad e fee sabilillah bhi ek hissa hai, aur wo shakhsh bade khasare mein hai jis ke pas [in mein se] koi hissa nahi. [Bazzar, Abu Yaala]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ»، قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؟» فَقَالُوا: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَارْسَلُوا إِلَيْهِ فَأْتُونِي بِهِ». فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ».

[خ: أصحاب النبي ﷺ، ۳۷۰۱، م: فضائل الصحابة رضي الله عنهم ۳۴ - (۲۴۰۶)]

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: کل میں جھنڈا ایک شخص کو سوئپوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا! چنانچہ لوگوں نے رات اس بحث میں گزار دی کہ کل وہ کون (خوش نصیب) ہوگا جسے جھنڈا ملنے والا ہے۔ جب صبح کو سارے لوگ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہر شخص یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ کاش کہ جھنڈا اسے ہی ملے تو آپ ﷺ نے فرمایا: علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے جواب میں کہا: اے اللہ کے رسول ان آنکھ میں تکلیف ہے، آپ نے فرمایا: ان کے پاس کسی کو بھیجو اور انہیں لے آؤ۔ جب وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان آنکھوں پر تھوکا اور دعا کی جس سے ان کی آنکھ ایسی ٹھیک ہو گئی کہ گویا اس میں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر نبی ﷺ نے انہیں جھنڈا دے دیا۔ حضرت علی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ان سے میں اس بات پر لڑوں کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اسی طرح چلتے جاؤ، یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی طرف دعوت دو اور اسلام میں اللہ کا جو حق ان پر ہے وہ انہیں بتاؤ۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ [بخاری و مسلم]

3-Duniya ke maal o mataa se behtar

Hazrat Saahl bin Saad رضی اللہ عنہ se rimayat hai keh:

Khaibar ke mauqe par Allah ke rasool ﷺ ne farmaya: kal mein ek jhanda ek shakhs ko saunpuga jis ke haath par Allah Ta'ala fateh naseeb farmayega! chunancha logon ne raat is bahes mein guzaar di ke kal woh kon (khush naseeb) hoga jise jhanda milne wala hai. jab subah ko saare log rasool e akram ﷺ ki khidmat mein haazir huwe aur har shakhs yeh ummeed lagaye huwe tha ke kaash ke jhanda use hi mile to aap ﷺ ne farmaya: Ali bin abi taalib kahan hain? logon ne jawab mein kaha: aye Allah ke rasool ﷺ unki aankh mein takleef hai, aap ﷺ ne farmaya: un ke paas kisi ko bhejo aur unhen le aao. jab woh khidmat e nabawi mein haazir huwe to aap ﷺ ne unki aankh par thooka aur dua ki jis se un ki aankh theek ho gayi ke goya us mein koi takleef hi nah thi. Phir nabi ne unhen jhanda de diya. hazrat Ali ne arz kiya: aye Allah ke rasool ﷺ! un se mein is baat par ladoon ke woh hamari tarah ho jaien? Aap ﷺ ne farmaya: isi tarah chalte jao, yahan tak ke un ke maidan mein utro , phir unhen islam ki taraf Daawat do aur islam mein Allah ka jo haq un par hai woh unhen batao. Allah ki qasam, agar Allah ta'ala tumhare zariye kisi ek shakhs ko bhi hidaayat de de to yeh tumhare liye surkh unton se behtar hai.

[Bukhari w Muslim]

۴- صدقہ کا بہترین بدل

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ».

[صحیح مسلم ۵۳ - (۱۰۰۶)، مسند أحمد ۲۱۴۷۳، صحیح ابن حبان ۸۳۸]

ابو ذر رضي الله عنه سے روایت ہے

کہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے نبی ﷺ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! زیادہ مال والے سارے اجر و ثواب لے گئے۔ وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں، (لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے جس میں سے) وہ ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں (جو ہم نہیں کر سکتے)۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایسی چیز نہیں بنائی ہے جسے تم بطور صدقہ کر سکو؟ بے شک ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تہلیل صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ [مسلم]

4-Sadqe ka behtareen badal

Abu Zar رضي الله عنه se riwayat hai ke:

Sahaba mein se kuch logon ne nabi se arz kiya: aye Allah ke rasool ﷺ! zyada maal wale saare ajr o sawaab le gaye. woh hamari tarah namaz padhte hain, hamari tarah roza rakhte hain, (lekin Allah Ta'ala ne unhen maal diya hai jis mein se) woh zaroorat se zyada maal kharch karte hain (jo hum nahi kar satke). nabi e kareem ne farmaya: kya Allah Ta'ala ne tumhare liye aisi cheez nahi banai hai jise tum bator e sadqa kar sako? beshak har tasbeeh sadqa hai, har takbeer sadqa hai, har tahmeed sadqa hai, har tehleel sadqa hai, bhalai ka hukm dena sadqa hai aur buraiee se rokna bhi sadqa hai. [Muslim]

۵-خطاؤں کا کفارہ

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ، قُلْتُ: أَنَا كَمَا قَالَ: قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا جَرِيءٌ، قُلْتُ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكْفَرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ».

[صحيح البخاري: مواقيت الصلاة ۵۲۵، صحيح مسلم: الفتن وأشراط الساعة ۲۶ - (۱۴۴)]

حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا: فتنوں سے متعلق رسول اللہ ﷺ کی کوئی بات میں سے کس نے یاد رکھی ہے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں: میں نے جواب دیا: میں نے! مجھے اسی طرح یاد جس طرح آپ ﷺ نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے کہا: تم اس قسم کی باتوں کے بارے میں بڑے دلیر ہو، (لاؤ سناؤ، رسول اللہ ﷺ نے کیا فرمایا ہے؟) میں نے کہا: (آپ ﷺ نے فرمایا:) آدمی کے اپنے اہل و عیال، اپنے مال و اولاد اور اپنے پڑوسی سے متعلقہ فتنوں کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو جاتے ہیں۔ [بخاری و مسلم]

5-Khataon ka kaffara

Huzaiifa رضی اللہ عنہ se riwayat hai ke:

Hum log hazrat Umar ki khidmat mein baithe huwe the ke unhon ne kaha: fitnon se mutalliq rasoolullah ﷺ ki koi baat mein se kis ne yaad rakhi hai? hazrat huzaiifa kehte hain: mein ne jawab diya: mein ne! mujhe usi tarah yaad jis tarah aap ﷺ ne farmaya tha. hazrat Umar ne kaha: tum is qism ki baton ke baare mein bade diler ho, (lao sunao, rasoolullah ﷺ ne kya farmaya hai?) mein ne kaha: [aap ﷺ ne farmaya:] aadmi ke apne ahl o ayaal, apne maal o aulaad aur apne padosi se mutalliqa fitnon ka kaffara namaz, roza, sadqa aur amr bil maarooof aur nah'yi anil munkar ho jate hain. [Bukhari w Muslim]

۶- اللہ کی رحمت اور کامیابی کا ذریعہ

قال تعالى:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ۷۱]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں؛ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ بیشک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ [التوبة: ۷۱]

6-Allah ki rehmat aur kamyabi ka zariya

Allah Ta'ala ne farmaya:

Momin mard aur momin aurtein apas mein ek dusre ke madadgaar w Mu'awin aur dost hain woh bhalai ka hukm dete hain aur buraiyon se rokte hain, namazon ki pabandi karte hain, zakat ada karte hain aur Allah aur uske rasool ki baat mante hain. yahi log hain jin par Allah Ta'ala bahot jald rahem farmayega. beshak Allah galbe wala hikmat wala hai. [at Taubah: 71]

قال تعالى:

﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

[آل عمران: ۱۰۴]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے؛ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ [آل عمران: ۱۰۴]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Tum mein se ek jamaat aisi honi chahiye jo bhalai ki taraf bulaye, nek kamon ka hukm kare aur bure kamon se roke; aur yahi log Falah paane wale hain.

[aale Imran: 104]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»

[م: الإيمان ۲۳۲ - (۱۴۵)]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ: «طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»، فَقِيلَ: مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أُنَاسٌ صَالِحُونَ، فِي أَنْاسٍ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعَصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ» (حم) عن ابن عمرو. [صحيح الجامع ۳۹۲۱] (صحيح)

ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے

کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: اسلام شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا اور (ایک وقت آئے گا کہ وہ) پھر سے اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جس طرح شروع میں تھا تو خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ [مسلم]

اور عبد اللہ بن عمرو بن عاص ؓ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک دن جب ہم اللہ کے رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے! تو آپ سے پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول، اجنبی کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: وہ کچھ نیک لوگ ہوں گے جو بہت سے بگڑے ہوئے لوگوں کے درمیان ہوں گے؛ جو لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے وہ ماننے والوں سے بہت زیادہ ہوں گے۔ [مسند احمد]

Abu Hurairah ؓ se riwayat hai ke

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: islam shuru huwa to woh ajnabi tha aur (ek waqt aaye ga ke woh) phir se usi tarah ajnabi ho jayega jis tarah shuru mein tha to khushkhabri hai ajnabion ke liye. [Muslim]

aur Abdullah bin Amr bin Aas ؓ se riwayat hai, farmate hain:

Ek din jab hum Allah ke rasool ﷺ ki khidmat mein haazir the, aap ﷺ ne farmaya: khushkhabri hai ajnabion ke liye! to aap ﷺ se poocha gaya: Aye Allah ke rasool ﷺ, ajnabi kon hain? To aap ﷺ ne farmaya: woh kuch nek log hon ge jo bahot se bigde huwe logon ke darmiyan hon ge; jo log un ki baat nahi manen ge woh manne walon se bahot zyada hon ge. [Musnad Ahmad]

۷۔ عمل کرنے والے کا ثواب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا». [صحيح مسلم ١٦ - (٢٦٧٤)]

ابو ہریرہ رضي الله عنه سے مروی ہے

کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی ہدایت کی طرف دعوت دی تو اسے اسی قدر ثواب ہے جس قدر اس کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے والوں کو ہوگا، البتہ عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی؛ اور جس نے کسی گمراہی کے راستے کی طرف دعوت دی تو اسے اسی قدر گناہ ملے جس قدر اس کی پیروی کرنے والے پر ہوگا؛ لیکن ان (پیروی کرنے والوں) کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ [مسلم]

7-Amal karne wale ka sawab

Abu Huraira رضي الله عنه se marvi hai ke Allah ke rasool ﷺ ne farmaya:

Jis ne kisi hidaayat ki taraf Daawat di to use usi qadr sawab hai jis qadr us ki batayi hui hidaayat par amal karne walon ko hoga, Albatta amal karne walon ke ajar mein koi kami nah hogi aur jis ne kisi gumraahi ke raste ki taraf Daawat di to use usi qadr gunah mile jis qadr us ki pairwi karne wale par hoga; lekin un (pairwi karne walon) ke gunah mein koi Kami nah hogi. [Muslim]

۸- پہلوں کی طرح اجر

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يُعْطُونَ مِثْلَ أَجُورِ أَوْلِهِمْ يُنْكِرُونَ الْمُنْكَرَ» (حم) عن رجل. [صحيح الجامع ۲۲۲۴] (صحيح)

عبدالرحمن بن حضرمی ﷺ فرماتے ہیں:

مجھے ان صاحب نے خبر دی جنہوں نے خود نبی ﷺ سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو پہلوں کی طرح اجر پائیں گے؛ وہ منکرات پر نکیر کریں گے۔ [مسند احمد]

8-Pehlo'n ki tarah ajar

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Abdur Rahman bin Hazrami farmate hain: mujhe un sahab ne khabar di jinhon ne khud nabi se suna hai ke Allah ke rasool ﷺ ne farmaya: meri ummat mein kuch aise log bhi honge jo pehlo ki tarah ajar payen ge; woh munkiraat par nakeer karen ge. [Musnad Ahmad]

۹۔ فرشتوں اور تمام مخلوق کی دعائے مغفرت کا حصول

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لِيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ».

[سنن الترمذی، ۲۶۸۵، الطبرانی الكبير ۷۹۱۲] [صحیح الجامع ۴۲۱۳] (صحیح)

ابو امامہ باہلی رضي الله عنه سے روایت

کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ ہوا۔ ان میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم تھا۔ اس پر اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنیٰ درجے والے پر۔ پھر آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: بلاشبہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمان وزمین کے رہائشی حتیٰ کہ اپنے سوراخ میں موجود چیونٹیاں بھی اور (پانی میں موجود) مچھلیاں بھی لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ [ترمذی، طبرانی]

9-Farishton aur tamaam makhlooq ki dua e maghfirat ka husool

Abu amaamaa Baahili رضي الله عنه se riwayat ke:

Nabi e kareem ke samne do aadmiyon ka tazkira huwa. un mein se ek aabid aur dusra aaliam tha. is par Allah ke rasool صلى الله عليه وسلم ne farmaya: aalim ki fazeelat aabid par aisi hai jaise meri fazeelat tum mein se kisi adna darje wale par. phir aap صلى الله عليه وسلم ne farmaya: bila shuba Allah Tabarak w Ta'ala, us ke farishte, aasman o zameen ke riha'ishi hatta ke apne surakh mein maujood chuntiyen bhi aur (pani mein maujood) machliyan bhi logon ko khair ki taleem dene wale ke liye maghfirat ki dua karti hain. [Tirmizi, Tabrani]

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِهِ لَيْسَ بِفِقْهِهِ». [سنن أبي داود ۳۶۶۰، سنن الترمذی ۲۶۵، سنن ابن ماجه ۲۳۰] [صحيح الجامع ۶۷۶۳] (صحيح)

زيد بن ثابت ﷺ سے روایت ہے

کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو سنا، آپ فرما رہے تھے: اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے (خوش و خرم اور شاداب رکھے) جو مجھ سے کوئی حدیث سنے، پھر اسے محفوظ رکھے، یہاں تک کہ دوسروں تک پہنچادے، (کیونکہ) بہت سے فقہ کے حاملین اس بات کو اپنے سے زیادہ فقیہ تک پہنچادیتے ہیں، اور بعض فقہ کے حاملین خود فقیہ نہیں ہوتے۔ [ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ]

10-Nabi ﷺ ki dua

Zaid bin saabit رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ se riwayat hai ke:

Mein ne Allah ke rasool ﷺ ko suna, aap ﷺ farmarahe the: Allah Ta'ala us shakhs ke chehre ko tar o tazah rakhe (khush w khurram aur shadaab rakhe) jo mujh se koi hadees sune, Phir use mehfooz rakhe, yahan tak ke doosron tak pohcha de, (kyunke) bahot se fiqh ke haamileen is baat ko apne se zyada faqeeh tak pohcha dete hain, aur baaz fiqh ke haamileen khud faqeeh nahi hote.

[Abu Dawood, Tirmizi, Ibne Majah]

امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑنے کا انجام Amr bil maaroof w nah'yi anil munkar chhodne ka anjaam

۱۔ اللہ کی لعنت

قال تعالى:

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة ۷۸ - ۷۹]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد (ﷺ) اور حضرت عیسیٰ بن مریم (ﷺ) کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اُن برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا۔ [المائدة ۷۸ - ۷۹]

1-Allah ki laanat

Allah Ta'ala ne farmaya:

Bani Israa'il ke kafiron par hazrat dawood ﷺ aur hazrat eesa bin maryam ﷺ ki zabani laanat ki gayi, is wajah se ke woh nafarmaniyen karte the aur had se aage badh jate the. woh aapas mein ek dusre ko un bure kamon se jo woh karte the rokthe nah the, jo kuch bhi yeh karte the yaqeenan bahot bura tha.

[al Maidaah 79 - 78]

عَنْ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا حَرَقْنَا فِي نَصِينَا حَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَّوْا جَمِيعًا».

[صحیح البخاری: الشركة ۲۴۹۳، سنن الترمذی ۲۱۷۳، مسند أحمد ۱۸۳۶۱]

نعمان بن بشیر رضي الله عنه سے روایت ہے

کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: اللہ کی حدود پر قائم شخص کی مثال اور اس شخص کی مثال جو اس میں مبتلا ہو چکا ہو ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے کسی کشتی میں سوار ہونے کے لئے قرعہ اندازی کی، بعض کے حصے میں اوپر کا طبقہ آیا اور بعض کے حصے میں نچلا طبقہ۔ اب نچلے حصے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ اوپر والوں کے پاس سے گزرتے، (جس سے وہ محسوس کرتے کہ اوپر والوں کو ہم سے اذیت پہنچتی ہے، لہذا) انہوں نے (باہم مشورہ کیا اور) کہا کہ اگر ہم اپنے نچلے حصے ہی میں (پانی کے لیے) سوراخ کر لیں (تو بہتر ہوگا)، اس طرح ہم اوپر والوں کے لئے اذیت کا باعث نہیں بنیں گے۔ اب اگر لوگ ان کو اور انکے ارادے کو پورا کرتے چھوڑ دیتے ہیں تو سبھی ہلاک ہو جائیں گے اور اگر ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو وہ خود بھی اور دوسرے لوگ بھی بچ جائیں گے۔ [بخاری]

2-Halaakat

Nu'maan bin Basheer رضي الله عنه se riwayat hai ke:

Nabi e kareem صلى الله عليه وسلم ne farmaya: Allah ki hudood par qaim shakhs ki misaal aur us shakhs ki misaal jo is mein mubtala ho chuka ho un logon ki tarah hai jinhon ne kisi kashti mein sawaar hone ke liye quraa andaazi ki, baaz ke hisse mein upar ka tabqa aaya aur baaz ke hisse mein nichla tabqa. ab nichle hisse walon ko jab pani ki zaroorat padti to woh upar walon ke paas se guzarte, (jis se woh mehsoos karte ke upar walon ko hum se aziyyat pohchti hai, lihaza) unhon ne (baaham mashwara kiya aur) kaha ke agar hum apne nichle hisse hi mein (pani ke liye) surakh karlen (to behtar hoga,) is tarah hum upar walon ke liye aziyyat ka baais nahi banenge. ab agar log un ko aur unke irade ko poora karne chhod dete hain to sabhi halaak ho jaien ge aur agar un ka haath pakad lete hain to woh khud bhi aur dusre log bhi bach jayen ge. [Bukhari]

عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ، فَلَا يُغَيِّرُوا، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا».

[سنن أبي داود ۴۳۳۹، مسند أحمد ۱۹۱۹۲، صحيح ابن حبان ۳۰۰] (حسن)

جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو سنا، آپ فرما رہے تھے: جو شخص بھی ایسے لوگوں کے درمیان ہو جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں اور وہ لوگ ان کی اصلاح کرنے اور اس برائی کو دور کرنے پر قادر ہوں لیکن پھر بھی اصلاح نہ کریں اور نہ ہی اس برائی کو دور کریں تو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہی انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ [ابوداؤد، مسند احمد، ابن حبان]

3-Allah ka azaab

Jareer bin Abdullah al Bajali رضی اللہ عنہ se riwayat hai ke:

Mein ne Allah ke rasool ﷺ ko suna, aap ﷺ farmarahe the: jo shakhs bhi aise logon ke darmiyan ho jin mein Allah ki nafarmaniyan ki jaati hain aur woh log un ki islaah karne aur is buraiee ko door karne par Qadir hon lekin phir bhi islaah nah karen aur nah hi is buraiee ko door karen to Allah Ta'ala maut se pehle hi unhen azaab mein muftala kar deta hai.

[Abu Dawood, Musnad Ahmad, Ibne Hibban]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ».

[سنن الترمذی ۲۱۶۹، مسند أحمد ۲۳۳۰۱، شعب الإيمان ۷۱۵۲] (حسن)

حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ ضرور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو! ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تمہارے اوپر کوئی عذاب بھیج دے؛ اور پھر تم اس سے دعائیں کرتے رہو اور وہ تمہاری دعائیں قبول ہی نہ کرے۔ [ترمذی، مسند احمد، شعب الإيمان]

Huzaiifa bin Yamaan رضی اللہ عنہ se riwayat hai ke:

Nabi e kareem ﷺ ne farmaya: us zaat ki qasam jis ke haath mein meri jaan hai tum log zaroor bhalai ka hukm do aur buraiee se roko! warna woh waqt door nahi ke Allah Ta'ala apni taraf se tumhare upar azaab bhej de; aur phir tum us se duAyen karte raho aur woh tumhari duAyen qabool hi nah kare.

[Tirmizi, Musnad Ahmad, Shu'b ul Imaan]



دَعْوَتِ اِلَى اللّٰهِ كَاشِرِ عَى حَكْم

**Daawat e ilallah
Ka Shar'ee Hukm**

قال تعالیٰ:

﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [القصص: ۸۷]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور اے نبی، اپنے رب کی طرف بلائے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ [القصص: ۸۷]

1-daawat o tableeg

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur aye Nabi, apne rab ki taraf bulate rahein aur shirk karne walon mein se na ho jaien. [al Qasas : 87]

قال تعالیٰ:

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ [النحل: ۱۲۵]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ [النحل: ۱۲۵]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Apne rab ki raah ki taraf logon ko bulaiyein. [an Nahl:125]

قال تعالیٰ:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ۶۷]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف سے آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے (اُسے) پہنچا دیجئے؛ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا۔ [المائدة: ۶۷]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aye rasool, jo kuch aap ki taraf se aap ke rab ki jaanib se nazil kiya gaya hai (use) pohncha dijiye; aur agar aap ne aisa nah kiya to Allah ka paigaam pohnchane ka haq ada nah kiya. [al Maidah : 67]

قال ﷺ:

«بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً». [خ: أحاديث الأنبياء ٣٤٦١] عن ابن عمرو

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ [بخاری]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Mera paigam logon tak pohnachao, agarche ek aayat hi kyun nah ho. [Bukhari]

قال ﷺ:

«لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ».

[خ: العلم: ٦٧ - م: القسامة والمحاربين والقصاص والديات ٢٩ - (١٦٧٩)] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

جو شخص یہاں موجود ہے اسے چاہیے کہ یہ (پیغام) اُن لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں پہنچادے۔ [بخاری و مسلم]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Jo shakhs yahan maujood hai use chahiye ke yeh (paigam) un logon tak jo yahan maujood nahi pohncha de. [Bukhari w Muslim]

قال تعالى:

﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

[آل عمران: ١٠٤]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم کرے اور بُرے کاموں سے روکے؛ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ [آل عمران: ١٠٤]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Tum mein se ek jamaat aisi honi chahiye jo bhalai ki taraf bulaye, nek kaamon ka hukm kare aur bure kaamon se roke; aur yahi log Falah paane wale hain.

[aale Imran : 104]

قال ابن كثير رحمته الله:

وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، أَنْ تَكُونَ فِرْقَةً مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُتَّصِدِيَةً هَذَا الشَّأْنِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنَ الْأُمَّةِ بِحَسْبِهِ، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ... (١)

[تفسير ابن كثير ط العلمية (٢ / ٧٨)]

ابن كثير رحمته الله فرماتے ہیں:

اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اس امت میں سے ایک جماعت اس ذمہ داری کے لیے تیار ہو جائے، اگرچہ یہ کام امت کے ہر فرد پر اس کی استطاعت کے مطابق ہی فرض ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔
[تفسیر ابن کثیر]

Ibn e kaseer رحمته الله farmate bain:

Is aayat se maqsood yeh hai ke is ummat mein se ek jamaat is zimme daari ke liye tayyar ho jaye, agarche yeh kaam ummat ke har fard par us ki isteta'at ke mutabiq hi farz hai jaisa ke sahih muslim ki ek hadees se saabit hota hai.

[Tafseer Ibne kaseer]

١ (ثم ذكر الحديث)... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. [تفسير ابن كثير ط العلمية (٢ / ٧٨)]

قال ابن تيمية رحمته الله:

وَقَدْ تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى اللَّهِ تَحِبُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ؛ لَكِنَّهَا فَرَضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُعَيَّنِ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَثْمُمْ بِهِ غَيْرُهُ وَهَذَا شَأْنُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَبْلِيغِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتَعْلِيمِ الْإِيمَانِ وَالْقُرْآنِ.

[مجموع الفتاوى (١٥ / ١٦٦)]

ابن تيمية رحمته الله فرماتے ہیں:

اس پوری گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دعوت ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن وہ فرض کفایہ ہے۔ یہ ہر معین شخص پر۔ جبکہ دوسرا کوئی اس ذمہ داری کو ادا نہ کر رہا ہو۔ اسکی استطاعت کے بقدر واجب ہو جاتی ہے؛ اور یہی حال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے (دین) کی تبلیغ کا ہے، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد اور ایمان و قرآن کی تعلیم کا بھی معاملہ ہے۔ [مجموع الفتاوى]

Ibne Taymiyah رحمته الله farmate bain:

Is poori guftagu se yeh baat bilkul wazeh hogayi ke daawat har musalman par farz hai, lekin woh farze kifayah hai. yeh har Mu'ayyan shakhs par jab ke dusra koi is zimme daari ko ada nah kar raha ho uski isteta'at ke baqadr waajib ho jaati hai; aur yahi haal amr bil maaroof aur nah'yi anil munkar ka aur rasoole akram صلی اللہ علیہ وسلم ke laaye huwe (deen) ki tableegh ka hai, aur isi tarah Allah ki raah mein jihaad aur imaan o quran ki taleem ka bhi maamla hai. [Majmoo ul Fatawa]

قال الشيخ بن باز رحمته الله:

الدعوة إلى الله فرض كفاية، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. (١) [فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (١٨ / ٢٩٢)]

شیخ بن باز رحمته الله فرماتے ہیں:

دعوتِ الی اللہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرح فرضِ کفایہ ہے۔ جب اتنے لوگ اس ذمہ داری پر قائم ہوں جن سے کفایت ہو جاتی ہو تو یہ ذمہ داری بقیہ لوگوں سے ساقط ہو جاتی ہے۔ [فتاوی نور علی الدرب]

Shaiykh bin Baaz رحمته الله farmate hain:

Daawat e ilallah bhi amr bil maaroof aur nah'yi anil munkar ki tarah farze kifayah hai. jab itne log is zimme daari par qaim hon jin se kifayat ho jati ho to yeh zimme daari baqiya logon se saaqit ho jaati hai. [Fatawa Noor alad-Darab]

١ قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} أمر لجميع أمة الإجابة أن يكون من بينها جماعة مهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صالحة لذلك، علما وثقافة وعملا وخلقا، متصدية لهذا الشأن، قائمة به على وجه يكفي في البلاغ والموعظة، وتصلح به أحوال الأمة، فإذا قام بذلك جماعة سقط الواجب عن الباقي، وإلا أتم الجميع. [فتاوى اللجنة الدائمة - ١ (١٢ / ٣٣١)]

قال الشيخ ابن باز رحمته الله: الواجب على العلماء وعلى ولاة الأمور نشر ما يصلح الأمة وأن يعلموا دينهم وأن يبصروا ما يجب عليهم، في صلاحهم وركاتهم وصومهم وحجهم، بل في عقيدتهم وهي الأساس، وفي كل شيء. [فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (١٨ / ٣٨٠)]

وقال أيضاً: أما بعد: فإن الدعوة إلى الله تعالى من أهم الواجبات الإسلامية، وهي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، وقد أمر الله بها في كتابه الكريم وأثنى على أهلها غاية الثناء. [مجموع فتاوى ابن باز (٢ / ٣٤١)]

قال الشيخ ابن عثيمين رحمته الله:

إذا كان الإنسان على بصيرة فيما يدعوا إليه فلا فرق بين أن يكون عالماً كبيراً يشار إليه أو طالب علم مُجِدُّ في طلبه أو عامياً، لكنه عِلْمُ المسألةِ علماً يقينياً.. فإنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم يقول «بلغوا عني ولو آية».. ولا يُشترطُ في الداعية أن يبلُغَ مَبْلُغاً كبيراً في العلم، لكن يُشترطُ أن يكون عالماً بما يدعوا إليه، أمّا أن يقومَ عن جهلٍ ويدعو بناءً على عاطفةٍ عنده فإن هذا لا يجوز.

[فتاوى إسلامية (٤/ ٢٦٦)]

شيخ ابن عثيمين رحمته الله فرماتے ہیں:

جب آدمی اس چیز کی بصیرت حاصل کر چکا ہو جس کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہے تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ ایک بہت بڑا عالم ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہو یا علم کی جستجو میں لگا ہوا ایک طالب علم ہو یا پھر کوئی عامی شخص ہی ہو۔ شرط بس یہ ہے کہ وہ اس مسئلہ کا یقینی علم رکھتا ہو... اس لیے کہ اللہ کے رسول ﷺ فرما چکے ہیں کہ «میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو»... ایک داعی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ علم ہو البتہ یہ شرط ضرور ہے کہ اس کے پاس اس چیز کا علم ہو جس کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ لیکن جہالت کے ساتھ ہی داعی بن کر کھڑے ہو جانا یا محض دعوتی جذبہ کی بنا پر دعوت کے میدان میں اتر پڑنا تو یہ چیز کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں۔ [فتاویٰ اسلامیہ]

Shaiykh Ibne Usaimen رحمته الله farmate bain:

Jab aadmi is cheez ki baseerat haasil kar chuka ho jis ki taraf woh logon ko daawat dena chahta hai to phir is mein koi farq nahi ke woh ek bahot bada aalim hai jis ki taraf ishara kiya jata ho ya ilm ki justajoo mein laga huwa ek taalib e ilm ho ya phir koi aami shakhs hi ho. shart bas yeh hai ke woh is mas'ale ka yaqeeni ilm rakhta ho... is liye ke Allah ke rasool ﷺ farma chuke hain ke « meri taraf se pohnta do khaah ek aayat hi kyun nah ho »... ek Daa'ee ke liye yeh shart nahi hai ke us ke paas bahot zyada ilm ho Albatta yeh shart zaroor hai ke is ke paas us cheez ka ilm ho jis ki taraf woh logon ko daawat de raha hai. lekin jahalat ke sath hi Daa'ee ban kar khade ho jana ya mahez daawati jazbe ki bina par daawat ke maidan mein utar padna to yeh cheez kisi bhi etebaar se jaa'iz nahi.

[Fatawa Islamiyyah]

قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ [المدثر: ۱، ۲]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے کپڑا اوڑھنے والے! کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے۔ [المدثر: ۱، ۲]

2-Inzaar

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aye kapda odhne wale! khada hoja aur aagah kar de. [al Muddassir: 1, 2]

قال تعالى:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ۱۲۲]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور یہ بات مناسب نہیں کہ تمام ہی مومنین جہاد کے لیے چلے جائیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت کے کچھ لوگ نکلیں، تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور جب اپنی قوم کے پاس واپس لوٹیں تو انہیں اللہ سے ڈرائیں تاکہ وہ برے کاموں سے پرہیز کریں۔ [التوبة: ۱۲۲]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur yeh baat munasib nahi ke tamam hi momineen jihaad ke liye chale jayein, to aisa kyun nahien hota ke har jamaat ke kuch log niklein, taake deen ki samajh haasil karen aur jab apni qaum ke paas wapas lauten to unhen Allah se darayein taake woh bure kaamon se parhez karen. [at Taubah:122]

۳-تذکیر

قال تعالیٰ:

﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [الغاشية: ۲۱]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

پس آپ نصیحت کر دیا کریں (کیونکہ) آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں۔ [الغاشية: ۲۱]

3-Tazkeer

Allah Ta'ala ne farmaya:

Pas aap naseehat kar diya karen (kyun ke) aap to bas naseehat karne wale hain.

[al-Gashiyah 21]

۴-امر بالمعروف ونہی عن المنکر

قال تعالیٰ:

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الاعراف: ۱۹۹]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آپ درگزر کی راہ اپنائیں، نیک کام ہی کا حکم دیں، اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ [الاعراف: ۱۹۹]

4-Amr bil maarroof w nah'yi anil munkar

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aap dar-guzar ki raah apnayen, nek kaam hi ka hukm den, aur jaahilon se eraaz karen. [al-Aaraaf: 199]

قال تعالیٰ:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طہ: ۱۳۲]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اپنے گھروالوں کو نماز کی تاکید کرتے رہیے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ [طہ: ۱۳۲]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Apne ghar walon ko namaz ki takeed karte rahiye aur khud bhi is par jame rahiye.

[Taha: 132]

قال تعالى:

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ،
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد (ﷺ) اور عیسیٰ بن مریم (ﷺ) کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اُن برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا۔ [المائدہ: ۷۸-۷۹]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Bani Israa'eel ke kafiron par Dawood ﷺ aur Esa bin Maryam ﷺ ki zabaani laanat ki gayi, is wajah se ke woh naafarmaniyan karte the aur had se aage badh jate the. woh aapas mein ek dusre ko un bure kaamon se jo woh karte the rokthe nah the, jo kuch bhi yeh karte the yaqeenan bahot bura tha. [al Maidah:78-79]

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ آيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ، أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ»

(حم د ت ه واللفظ له حب) [ه بتحقيق الألباني ٤٠٠٥] (صحيح)

قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) نے کھڑے ہو کر (خطبہ دیا تو) اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی، اس کے بعد فرمایا: لوگو! تم یہ آیت پڑھتے ہو: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ "اے ایمان والو! تم اپنی فکر کرو، اگر تم خود ہدایت پر ہو تو دوسرے شخص کی گمراہی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی۔" [سورۃ المائدہ: ۱۰۵] اور بیشک ہم نے اللہ کے رسول (ﷺ) کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: «جب لوگ کسی برائی کو ہوتا دیکھیں اور اس کو دفع نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب نازل کر دے۔»

[مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان] اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں۔

Qais bin abi Haazim kehte hain ke ek martaba abu bakr ﷺ ne khade ho kar (khutba diya to) Allah ta'ala ki hamd o Sanaa bayan ki, us ke baad farmaya: logo! tum yeh aayat padhte ho:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾

"aye imaan walo! tum apni fikr karo, agar tum khud hidaayat par ho to dusre shakhs ki gumraahi tumhe nuqsaan nah pohncha sakegi." [surah al maidah: 105] aur beshak hum ne Allah ke rasool ko farmate huwe suna hai ke: jab log kisi buraiee ko hota dekhen aur us ko dafa na karen to qareeb hai ke Allah ta'ala un sab par apna azab nazil kar de.

[Musnad Ahmed, Abu Dawood, Tirmizi, Ibne Majah, Ibne Hibban] aur alfaaz Ibne Majah ke hain.

قال ﷺ:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». [م: الإيمان ۷۸ - (۴۹)]

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر (یعنی خلاف شرع) کام کو ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو پھر زبان سے روکے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو پھر دل ہی سے مٹا دے (یعنی دل میں اس کو بُرا جانے اور اس سے بیزار ہو) اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔" [مسلم]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Tum mein se jo shakhs bhi kisi munkar (yaani khilaafe sharaa) kaam ko hota dekhe to use chahiye ke woh us ko apne haath se mita de, agar itni taaqat nah ho to phir zabaan se roke, aur agar itni bhi taaqat nah ho to phir dil hi se mita de (yaani dil mein us ko bura jaane aur us se bezaar ho) aur yeh imaan ka sab se kamtar darja hai." [Muslim]

قال ﷺ:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ». (حم ت) عن حذيفة [صحيح الجامع ۷۰۷۰] (حسن)

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم ضرور بھلائی کا حکم دو اور منکر برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمادے اور پھر تم اللہ سے دعا کرو لیکن تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔

[مسند احمد، ترمذی]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Us zaat ki qasam jis ke haath mein meri jaan hai! tum zaroor bhalai ka hukm do aur munkar buraiee se roko, warna qareeb hai ke Allah ta'ala tum par apna azaab nazil farmade aur phir tum Allah se dua karo lekin tumhari dua qabool nah ki jaye.

[Musnad Ahmad, Tirmizi]

قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

[البقرة: ۱۵۹، ۱۶۰]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجودیکہ ہم نے اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لئے بیان کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ ہاں، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ [البقرة: ۱۵۹، ۱۶۰]

5-Taaleem

Allah Ta'ala ne farmaya:

Jo log hamari utari hui daleelon aur hidaayat ko chupate hain bawajood yeh-ke hum ne use apni kitaab mein logon ke liye bayan kardiya hai, to aise logon par Allah ki laanat hai aur tamam laanat karne walon ki laanat hai. haan, magar woh log jo tauba karen aur islaah karlen aur bayan kar dein to mein un ki tauba qabool kar leta hoon aur mein bada tauba qabool karne wala, rahem karne wala hoon. [al Baqarah: 159-160]

قال تعالى:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ۱۸۷]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ [آل عمران: ۱۸۷]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur jab Allah ta'ala ne ahle kitaab se ahed liya ke tum ise logon ke samne zaroor bayan karoge aur use chupaoge nahi. [aale Imran: 187]

قال ﷺ:

«مَنْ سئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ، أَجْمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

(حم ۴ ك) عن أبي هريرة. [صحيح الجامع ۶۲۸۴] (صحيح)

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی لیکن اس نے اسے چھپا لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنا دے گا۔ [مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Jis shakhs se ilm ki koi baat puchi gayi lekin us ne use chupa liya to Allah ta'ala qayamat ke din use aag ki lagaam pehna dega.

[Musnad Ahmad, Abu Dawood, Tirmizi, Nasai, Ibne Majah, Hakim]

قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحریم: ۶]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو (جہنم کی) آگ سے بچاؤ۔ [التحریم: ۶]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aye imaan walo! tum apne aap ko aur apne ghar walon ko (jahannam ki) aag se bachao. [at Tabreem: 6]

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

«عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ الْخَيْرَ».

(ك) [الحاكم: ۳۸۲۶] (وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم)

علی بن ابی طالب رضي الله عنه فرماتے ہیں:

اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو۔ [حاکم]

Ali bin abi taalib رضي الله عنه farmate hain:

apne aap ko aur apne ghar walon ko khair ki taaleem do. [Hakim]

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:

ما كلُّ يستطيع الدعوة؛ بمعنى أنه يعلم الناس أمور الدين وأمور العقيدة، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر.... لكن على كل مسلم مسؤولية بحسب استطاعته... فالإنسان مكلف بالدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ على أهل بيته ومن تحت يده.

[المنتقى من فتاوى الفوزان (٨ / ٢٣) فتوى رقم ١٨٩]

شيخ صالح الفوزان حفظه الله فرماتے ہیں:

ہر ایک شخص دعوت کی استطاعت نہیں رکھتا؛ اس معنی میں کہ وہ لوگوں کو دینی امور اور عقیدہ کی باتیں سکھائے، انہیں بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے؛ پس آدمی اپنے گھر والوں اور ماتحتوں پر دعوت الی اللہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تعلق سے مامور ہے۔ [المنتقى من فتاوى الفوزان]

Shaiykh Saaleh al fauzan hafizabullah farmate bain:

Har ek shakhs daawat ki isteta'at nahi rakhta; is ma'ana mein ke woh logon ko deeni umoor aur aqeede ki baaten sikhayen, unhein bhalai ka hukm de aur buraiyon se roke; pas aadmi apne ghar walon aur maatehton par daawat-e ilallah aur amr bil maarooof w nah'yi anil munkar ke talluq se maamur hai.

[al Muntaqa min Fatawa al Fauzan]

قال تعالى:

﴿وَالْعَصْرُ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ﴾. [العصر: ۱ - ۳]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

زمانے کی قسم، بیشک انسان خسارے میں ہے۔ سوائے اُن لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور (جنہوں نے) ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔
[العصر: ۱ - ۳]

6-Wasiyyat

Allah Ta'ala ne farmaya:

Zamaane ki qasam, beshak insaan khasaare mein hai. siwaye un logon ke jo imaan laaye aur nek amal karte rahe aur (jinhon ne) ek dusre ko haq ki wasiyyat ki aur ek dusre ko sabr ki wasiyyat karte rahe. [al Asr:3-1]



ہم دعوت کیوں دیں؟

Hum Kyun Daawat Den?

قال تعالى:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

[يوسف: ۱۰۸]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آپ کہہ دیجیے: یہی میری راہ ہے، میں (لوگوں کو) اللہ کی طرف دلیل و برہان کی روشنی میں بلاتا ہوں، خود میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی، اور اللہ کی ذات بے عیب ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

[يوسف: ۱۰۸]

1-Bandon ko Allah se jodna.

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aap keh dijiye: yahi meri raah hai, mein (logon ko) Allah ki taraf daleel o burhan ki roshni mein bulata hoon, khud mein bi aur meri itteba karne wale bhi, aur Allah ki zaat be ayeb hai aur mein mushrikeen mein se nahi hoon. [Yusuf 108]

قال تعالى:

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ۵۷]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(اے نبی!) آپ ان سے کہہ دیجیے: میں اس (تبلیغ) پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے۔ [الفرقان: ۵۷]

Allah Ta'ala ne farmaya:

(Aye Nabi!) aap un se keh dijiye: mein is (tableegh) par tum se koi ujrati nahi mangta. meri ujrati bus yahi hai ke jis ka ji chahe apne rab ki raah ikhtiyar karle.

[al-Furqan 57]

قال تعالیٰ:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ۵۸]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کی کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو۔ [النساء: ۵۸]

2-Amaanat ki adaygi

Allah Ta'ala ne farmaya:

Allah Ta'ala tumhein taakidi hukm deta hai keh amaanat walon ki amaanatein unhein pahuncha do. [an-Nisa 58]

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ كُلَّ رَبٍّ مِنْ رَبِّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلِمُونَ، وَلَا تُظْلَمُونَ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضْعُ مِنْهَا، دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كَانَ مُسْتَرَضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَكَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ» قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ»، قَالُوا: نَعَمْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ»^(۱)، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

(حم د ت ه) [د بتحقيق الألباني ۳۳۴] (صحيح)

عمرو بن احوص رضي الله عنه کہتے ہیں

کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے حجۃ الوداع میں سنا: آپ فرما رہے تھے: سنو! زمانہ جاہلیت کے سارے سود کا لادم ہیں، تمہارے لیے بس تمہارا اصل مال ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ سن لو! زمانہ جاہلیت کے سارے خون کا لادم ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے سارے خونوں میں سے سب سے پہلے جسے میں معاف کرتا ہوں وہ حارث بن عبدالمطلب کا خون ہے — (راوی کہتے ہیں: وہ ایک شیر خوار بچہ تھے جو بنی لیث میں پرورش پا رہے تھے کہ ان کو ہذیل کے لوگوں نے مار ڈالا تھا — پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! کیا میں نے (پیغام) پہنچا دیا؟ لوگوں نے تین بار کہا: ہاں (آپ نے پہنچا دیا)۔ آپ نے تین بار کہا: اے اللہ! تو گواہ رہنا۔

[مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ]

Amr bin Ahwas رضي الله عنه kehte hain keh mein ne Allah ke Rasool ﷺ se hajjatul wida mein suna:

Aap ﷺ farma rahe the: suno! zamane jahiliyyat ke sare sood kal-adam hain, tumahre liye bas tumhara asal maal hai, na tum kisi par zulm karo na tum par koi zulm kare. sun lo! zamane jahiliyyat ke sare khoon kal-adam hain, aur zamane jahiliyyat ke sare khoono me se sab se pehle jise mein maaf karta hoon woh Haaris bin Abdul Muttalib ka khoon hai (ravi kehte hain) woh ek sheer khawar bachche the jo Bani Lais mein parwarish pa rahe the ke un ko Huzail ke logon ne mar dala tha phir aap ﷺ ne farmaya: aye Allah! kya mein ne (paigam) pouncha diya? logon ne teen baar kaha: haan (aap ne pohncha diya). aap ne teen bar kaha: aye Allah! tu gawah rehna. [Musnad Ahmad, Abu Dawood, Tirmizj, Ibne Majah]

^۱ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: حَطَبْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟»، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟»، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ «أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ؟»، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ «أَلَيْسَتْ بِالْبَلَدَةِ الْحَرَامِ؟» قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: «فَيَأْتِي دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامًا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْفُؤُونَ رَبِّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْعَائِبِ، فَرُبَّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَمَا زَا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»

قال تعالى:

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء ۱۶۵]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ہم نے رسول بھیجے جو خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے تھے تاکہ رسولوں کے آجانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلہ میں کوئی حجت (یعنی عذر) باقی نہ رہے۔ [النساء ۱۶۵]

3-Iqaamat e hujjat

Allah Ta'ala ne farmaya:

Hum ne rasool bheje jo khushkhabri sunane wale aur khabardar karne wale the taki rasoolon ke aajane ke bad logon ke pas Allah ke muqable mein koi hujjat (yaani uzr) baki na rahe. [an-Nisa 165]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ». [خ: تفسير القرآن ۴۶۳۴ - م: التوبة ۳۵ - (۲۷۶۰)]

عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی نہیں جسے اللہ سے بڑھ کر عذر (قبول کرنا) پسند ہو، یہی وجہ ہے کہ اس نے کتابیں نازل فرمائی اور رسول بھیجے۔ [بخاری و مسلم]

Abdullah bin Mas'ood رضي الله عنه se rivayat hai keh:

Rasool Allah ﷺ ne farmaya: koi nahi jise Allah se badh kar uzr (qabool karna) pasand ho, yahi wajah hai keh us ne kitabein nazil farmayee aur rasool bheje.

[Bukhari w Muslim]

۴۔ بنی آدم کو جہنم اور ہلاکت سے بچانا^(۱)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، وَجَعَلَ يَحْجُرُهُنَّ وَيَغْلِبُنَّهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، قَالَ فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، أَنَا آخِذٌ بِحُجْرِكُمْ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا» [خ: الرقاق ٦٤٨٣ - م: الفضائل ١٨ - (٢٢٨٤)] واللفظ لمسلم

ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی۔ جب اس کے اطراف ماحول روشن ہوا تو اس آگ میں کیڑے مکوڑے گرنے لگے۔ وہ شخص انھیں روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے، بلکہ اس میں گرنے لگے۔ پس (میرا اور تمہارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے!) میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں (اور پکار رہا ہوں): آگ سے بچو! آگ سے بچو! اور مجھ سے اپنے آپ کو چھڑا کر اسی آگ کو رہے ہو۔ [بخاری و مسلم]

4-Bani Adam ko Jahannam aur halaakat se bachaanaa

Abu Huraira رضي الله عنه se riwayat hai:

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: meri misal us shakhsh ki si hai jis ne aag jalai. Jab us ke atraaf mahool roshan huwa to us aag mein keede makode girne lage. Who shakhsh unhen rokne laga lekin who nah ruke, balke us mein girne lage. Pus (mera aur tumhara mamla bhi kuch aisa hi hai!) mein tumhari kamar pakad pakad kar tumhe aag se bachane ki koshish kar raha hoon (aur pukaar raha hoon) aag se bacho! Aag se bacho! Aur mujh se apne aap ko chudakar usi aag mein kood rahe ho. [Bukhari w Muslim]

^۱ عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ، إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعْثَنِي، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعَزِيمُ، فَالْتَّجَاءُ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَدْبَجُوا، فَأَنْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجَّوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَنَحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. [خ: الاعتصام بالكتاب والسنة ٧٢٨٣ - م: الفضائل ١٦ - (٢٢٨٣)]

۵- خیر عام ہو اور شر کی روک تھام ہو

عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أُنْهَلِكُمْ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعْمَ إِذَا كَثُرَ الْخَبْثُ». [خ: أحاديث الأنبياء ۳۳۴۶ - م: الفتن وأشراط الساعة ۱ - (۲۸۸۰)]

ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے

کہ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہوں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! جب خباثت غالب آجائے۔ [بخاری و مسلم]

5-Khair aam ho aur shar ki rok thaam ho

Ummul momineen Zainab bint Jabesh رضی اللہ عنہا se riwayat hai keh:

mein ne pucha: aye Allah ke Rasool صلی اللہ علیہ وسلم! Kya hum us waqt bhi halaak honge jabke hamaare darmiyan nek log maujood hon? Aap صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya: haan! Jab khabasat ghalib aajaye. [Bukhari w Muslim]

قال تعالى:

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الانفال: ۲۵]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور اس مصیبت سے بچنے کی فکر کرو جو صرف انہی لوگوں کے لئے مخصوص نہ ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو؛ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ [الانفال: ۲۵]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur us musibat se bachne ki fikr karo jo sirf unhi logon ke liye makhsoos na hogi jinhon ne tum mein se zulm kiya ho; aur jaan lo keh Allah Ta'ala sakht sazaa dene wala hai. [al-Anfal 25]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: «أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يُقْرُوا الْمُنْكَرَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَيَعْمَهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ».

[تفسیر الطبری = جامع البیان ط ہجر (۱۱ / ۱۱۵)]

ابن عباس رضي الله عنه فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے سامنے برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس پر راضی نہ رہیں۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سبھی کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ [تفسیر طبری]

Ibne Abbas رضي الله عنه farmate hain:

Allah Ta'ala ne emaan walon ko is baat ka hukm diya hai keh who apne samne burai ko hota huwa dekh kar us par razi na rahein. Kahin aisa nah ho keh Allah Ta'ala apni taraf se sabhi ko azaab mein muhtala nah karde. [Tafseer Tabri]

۶۔ اجرِ عظیم کا حصول

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أُبَدِعُ بِي فَاخْمَلِنِي، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى حَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» [م: الإمامة ۱۳۳ - (۱۸۹۳)]

ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

کہ ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری سواری نہیں رہی، لہذا مجھے کوئی سواری عنایت فرمادیں۔ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: میرے پاس بھی کوئی مناسب سواری نہیں ہے۔ اس پر وہاں موجود ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں انہیں ایسا شخص نہ بتا دوں جو انہیں سواری دے سکتا ہو؟ آپ نے فرمایا: جس نے کسی نیکی کی طرف رہنمائی کر دی اس کے لئے بھی ویسا ہی اجر و ثواب ہے جیسا کہ خود اس نیکی کے کرنے والے کے لیے ہے۔ [مسلم]

6-Ajr-e-azeem ka husool

Abu Mas'ood Ansari رضی اللہ عنہ se marvi hai keh:

Ek shakhsh khidmat e nabawi ﷺ mein hazir huwa aur arz kiya keh meri sawari nahi rahi, lihaza mujhe koi sawari enayat farmadein. Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: mere pass bhi koi munasib sawari nahi hai. Is par wahan maujood ek shakhsh ne kaha: aye Allah ke Rasool! Kya mein inhein aisa shakhsh na bata doon jo inhein sawari de sakta ho? Aap ﷺ ne farmaya: jis ne kisi neki ki taraf rahnumai kardi us ke liye bhi waisa hi ajr o sawab hai jaisa keh khud us neki ke karne wale ke liye hai. [Muslim]

قال ﷺ:

«مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا».

[م: العلم ۱۶ - (۲۶۷۴)] عن أبي هريرة

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

جو شخص ہدایت کی طرف بلائے اس کو ہدایت پر چلنے والوں کا بھی ثواب ملے گا اور چلنے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ [مسلم]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Jo shakhsh hidaayat ki taraf bulaye us ko hidaayat par chalne walon ka bhi sawab mile ga aur chalne walon ke sawab mein se koi kami nahi ki jayegi.

[Muslim]



داعی کے اوصاف

Daa'ee ke Ausaaf

۱۔ دعوت کی حقانیت کا یقین

قال تعالى:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾. [الروم ۶۰]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

پس آپ صبر کریں یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ کو وہ لوگ ہلکا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ [الروم ۶۰]

1-Daawat ki haqqaniyyat ka yaqeen

Allah Ta'ala ne farmaya:

Pas aap sabr karen yaqeenan Allah ka wada sachcha hai. aap ko woh log halka nah kar dein jo yaqeen nahi rakhte. [Ar-Room 60]

قال ﷺ:

«لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدْرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ».

(حم حب طب ك) عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ [الصحيحه ۳]

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

یہ دین وہاں تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات دن پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی مٹی یا بالوں کا گھر نہ چھوڑے گا جس میں اس دین کو داخل نہ کر دے۔ [مسند احمد، ابن حبان، طبرانی، حاکم]

Allah ke Rasool ﷺ ne feramya:

Yeh deen wahan tak pahunch kar rahe ga jahan tak raat din pahunchte hain. Allah Ta'ala koi mitti ya baaloon ka ghar nah chhode ga jis mein is deen ko daakhil nah karde. [Musnad Ahmad, Ibne Hibban, Tabrani, Haakim]

۲- اللہ پر توکل

قال شعيب ۷:

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ . [هود: ۸۸]

شعيب ۷ نے اپنی قوم سے کہا:

میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے ہی کا ہے میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے؛ اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ [ہود: ۸۸]

2-Allah par tawakkal

Shuaib ۷ ne apni qaum se kaha:

Mera iradah to apni taaqat bhar islaah karne hi ka hai meri taufiq Allah hi ki madad se hai; usi par mera bharosa hai aur usi ki taraf mein rujoo karta hoon.

[Hood-88]

قال تعالى:

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ . [ابراهيم: ۱۱، ۱۲]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ان کے رسولوں نے (اپنی قوم کے) لوگوں سے کہا: یہ تو سچ ہے کہ ہم تم ہی جیسے انسان ہیں؛ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں اور ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیوں نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں بھائی ہیں۔ اور جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے، توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ [ابراہیم: ۱۱، ۱۲]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Unke Rasoolon ne (apni qaum ke) logon se kaha: yeh to sach hai ke hum tum hi jaise insaan hain lekin Allah Ta'ala apne bandon mein se jise chahta hai apna fazl karta hai. Allah ke hukm ke baghair hamari majaal nahi ke hum koi mo'jiza tumhe laa dikhayen aur imaan walon ko sirf Allah hi par bharosa rakhna chahiye. aur hum Allah Ta'ala par bharosa kyun nah rakhen jabke usi ne hamein hamari raahein sujhai hain. aur jo izayein tum hamein do ge hum un par sabr hi karen ge, tawakkal karne walon ko Allah hi par tawakkal karna chahiye. [Ibrahim 11-12]

قال تعالى:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ . [يوسف: ۱۰۸]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(اے نبی،) آپ کہہ دیجیے: یہ میری راہ ہے، میں (لوگوں کو) اللہ کی طرف دلیل و برہان کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں، خود میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ [یوسف: ۱۰۸]

3-Illm ki hikmat

Allah Ta'ala ne farmaya:

(Aye nabi) aap keh dijiye: yeh meri raah hai, mein (logon ko) Allah ki taraf daleel o burhan ki roshni mein Daawat deta hoon, khud mein bhi aur mere ittebaa karne wale bhi. [Yusuf 108]

قال تعالى:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ . [النحل: ۱۲۵]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے بحث و مباحثہ کیجیے۔ [النحل: ۱۲۵]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Apne rab ki raah ki taraf logon ko hikmat aur behtareen naseehat ke sath bulayiye aur un se behtareen tareeqe se bahes wa mubahisa kijiye. [an-Nahal 125]

قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾. [المائدة: ٦٧]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے (اُسے) پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا؛ اور اللہ ضرور آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ [المائدہ: ٦٧]

4-Ahsaase amaanat

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aye Rasool, jo kuch aap ki taraf aap ke rab ki janib se nazil kiya gaya hai (use) pahuncha dijiye. Agar aap ne aisa nahi kiya to aap ne risaalat ka haq ada nahi kiya; aur Allah zaroor aap ko logon se bachaye ga. [al-Maidah 67]

قال تعالى:

﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾. [الاعراف ٦٧ - ٦٨]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(ھود ؑ نے اپنی قوم سے) کہا: اے میری قوم! مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانتدار ہوں۔ [الاعراف ٦٧ - ٦٨]

Allah Ta'ala ne farmaya:

(Hood ne apni qaum se) kaha: Aye meri qaum! mujh mein zara bhi kam-aqli nahi, lekin baat yeh hai ke mein rabbul aalameen ki taraf se bheja huwa rasool hoon. tum ko apne rab ke paigaamaat pohchata hoon aur mein tumhara khair khaa hoon, amaanatdaar hoon. [al-Aaraaf 67-68]

۵۔ لوگوں کی ہدایت کی حرص

قال تعالى:

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء ۳]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(اے نبی!) اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ [الشعراء ۳]

5-Logon ki hidaayat ki hirs

Allah Ta'ala ne farmaya:

(Aye nabi!) agar yeh log imaan nahi laate to is gham mein shayad aap apne aap ko halaak hi kar dalain ge. [ash-Shuaraa 3]

قال ﷺ:

«مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجُرُهُنَّ وَيُعْلِبُنَهُ فَيَتَفَحَّمْنَ فِيهَا قَالَ فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَنَا آخِذٌ بِحُجْرِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي تَفَحَّمُونَ فِيهَا» . [خ: الرقاق ۶۴۸۳ - م: الفضائل ۱۸ - (۲۲۸۴)]

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی۔ جب اس کے آس پاس ماحول روشن ہوا تو اس آگ میں کیڑے مکوڑے گرنے لگے۔ وہ شخص انہیں روکنے لگا لیکن وہ نہ رکے، بلکہ اس میں گرتے ہی رہے۔ پس (میرا اور تمہارا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے!) میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں (اور پکار رہا ہوں:) آگ سے بچو! آگ سے بچو! اور تم مجھ سے اپنے آپ کو چھڑا کر اسی آگ میں کود رہے ہو۔ [بخاری و مسلم]

Abu Huraira رضی اللہ عنہ se riwayat hai:

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: meri misaal us shakhs ki si hai jis ne aag jalayi. jab us ke aas paas mahol roshan huwa to us aag mein keede makode girne lage. woh shakhs unhein rokne laga lekin woh nah ruke, balke us mein girte hi rahe. pas (mera aur tumhara maamla bhi kuch aisa hi hai!) mein tumhari kamar pakad pakad kar tumhe aag se bachaane ki koshish kar raha hoon (aur pukaar raha hoon) aag se bacho! aag se bacho! aur tum mujh se apne aap ko chudhakar usi aag mein kood rahe ho. [Bukhari o Muslim]

۶۔ اخلاص و بے غرضی

قال تعالى:

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾. [الفرقان ۵۷]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آپ ان سے کہیے: میں اس (تبلیغ) پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے۔ [الفرقان ۵۷]

6-Ikhlaas w be-gharzi

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aap un se kahive: mein is (tableeah) par tum se koi uirat nahi manata. meri ujrta bas yahi hai ke jis ka jee chahe apne rab ki raah ikhtiyar karle. [al-Furqan 57]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ۖ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَا شَيْءَ لَهُ». فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَارٍ، وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ: «لَا شَيْءَ لَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتِغْيَا بِهِ وَجْهَهُ». (د ن) [صحيح الترغيب ۸] (حسن)

ابو امامہ الباہلی ۖ فرماتے ہیں:

ایک شخص نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا، اور عرض کیا: آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو جہاد کرتا ہے، اور اس پر اجر بھی چاہتا ہے اور شہرت بھی، اسے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: "اسے کچھ نہیں ملے گا!" تین بار اس نے یہی بات دہرائی اور اللہ کے رسول ﷺ بھی تینوں مرتبہ یہی کہتے رہے کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، اور جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ [ابوداؤد، نسائی]

Abu amama Babili ۖ farmate hain:

ek shakhs Nabi e Akram ke paas aaya, aur arz kiya: aap ek aise shakhs ke bare mein kya farmate hain jo jihad karta hai, aur us par ajr bhi chahta hai aur shohrat bhi, use kya mile ga? Allah ke Rasool ne farmaya: "use kuch nahi mile ga!" teen baar us ne yahi baat dohraai aur Allah ke Rasool bhi teeno martaba yahi kehte rahe ke us ke liye kuch nahi hai. phir aap ne farmaya: Allah Ta'ala sirf wahi amal qabool karta hai jo khalis Allah ke liye ho, aur jo mahez Allah ki Raza ke liye kiya gaya ho. [Abu Dawood, Nasai]

قال تعالى:

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾. [البقرة ۴۴]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

کیا (یہ بات درست ہے کہ) تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم (اللہ کی) کتاب بھی پڑھتے ہو؟ کیا تم میں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ [البقرة ۴۴]

7-Uswa e hasanah

Allah Ta'ala ne farmaya:

kya (yeh baat durust hai ke) tum logon ko bhalai ka hukm dete ho lekin khud apne aap ko bhool jate ho jabke tum (Allah ki) kitaab bhi padhte ho? kya tum mein itni bhi samajh nahi? [al-Baqarah 44]

قال تعالى:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾. [فصلت: ۳۳]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے جو (لوگوں کو) اللہ کی طرف بلائے اور (خود بھی) نیک کام کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ [فصلت: ۳۳]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aur is se ziyada achi baat wala kon ho sakta hai jo (logon ko) Allah ki taraf bulaye aur (khud bhi) nek kaam kare aur kahe ke mein bhi musalmanon mein se hoon.

[Fussilat 33]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ۲۱۴]، صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا، فَجَعَلَ يُنَادِي: «يَا بَنِي فَهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ» - لِيُطَوِّنَ قُرَيْشٍ - حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو هَلَبٍ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي؟» قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَيْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا، قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ» فَقَالَ أَبُو هَلَبٍ: تَبَّ لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي هَلَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ [المسد: ۱-۲]

[خ: تفسیر القرآن ۴۷۷۰ - م: ایمان ۳۵۵ - (۲۰۸)] واللفظ للبخاری

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ جب آیت ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ اور آپ اپنے خاندانی قرابت داروں کو خبردار کر دیں «نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور پکارنے لگے: اے بنی فہر! اور اے بنی عدی! اور قریش کے دوسرے خاندان والو! آپ کی آواز پر سب جمع ہو گئے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے نہ بھی آسکا تو اس نے اپنا کوئی آدمی بھیج دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کیا بات ہے۔ ابو لہب بھی قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع میں حاضر تھا۔ نبی کریم ﷺ نے انہیں خطاب کر کے فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں تم سے کہوں کہ وادی میں (پہاڑی کے پیچھے) ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا: ہاں، ہم ضرور آپ کی تصدیق کریں گے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تو پھر سنو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے! اس پر ابو لہب بولا: تجھ پر سارے دن تباہی ہو، کیا تو نے ہمیں اتنی سی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ اسی واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي هَلَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ «ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی ہی اس کے کچھ کام آئی»۔ [بخاری و مسلم]

8-Sidq w aamaanat

Ibne Abbas رضی اللہ عنہ farmate hain keh:

jab aayat ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ «aur aap apne khandani qaraabat daaron ko khabardaar kar dein» nazil hui to Nabi Kareem ﷺ Safa pahadi par chadh gaye aur pukarne lage: Aye bani Fihr! aur Aye bani Adi! aur Quresh ke dusre khandan walo! aap ki aawaz par sab jama ho gaye. agar koi kisi wajah se nah bhi aa saka to us ne apna koi aadmi bhej diya taaki maloom ho jaye ke kya baat hai. Abu Lahab bhi

Quresh ke dusre logon ke sath majmaa mein haazir tha. Nabi e Kareem ﷺ ne unhe khitaab kar ke farmaya: tumhara kya khayaal hai, agar mein tum se kahu ke wadi mein (pahadi ke peeche) ek lashkar maujood hai aur tum par hamla karne ke liye bilkul tayyar hai, to kya tum meri baat sach mano ge? sab ne kaha: haan, hum zaroor aap ki tasdeeq karen ge, hum ne aap ko hamesha sachcha hi paaya hai. Nabi e Kareem ﷺ ne farmaya: to phir suno, mein tumhe ek sakht azaab se darata hoon jo bilkul samne hai! is par Abu Lahab bola: tujh par saare din tabaahi ho, kya tu ne hamein itni si baat ke liye jama kiya tha? isi waqia par yeh aayat naazil hui ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ «Abu Lahab ke dono haath toot gaye aur woh barbaad ho gaya, nah us ka maal us ke kaam aaya aur nah us ki kamaai hi us ke kuch kaam aayi». [Bukhari o Muslim]

قال الله تعالى لموسى وهارون ﷺ:

﴿أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾. [طه ۴۳ - ۴۴]

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون ﷺ سے فرمایا:

تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے نرم بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا اس (کے دل) میں (اللہ کا) خوف پیدا ہو جائے۔ [طہ ۴۳ - ۴۴]

9-Narmi w tawaazu'

Allah Ta'ala ne Moosa w Haroon ﷺ se farmaya:

Tum dono Fir'aon ke paas jao, woh bada sarkash hogaya hai. lekin us se narm baat karna, shayad ke woh naseehat qabool karle ya us (ke dil) mein (Allah ka) khauf paida hojaye. [Taba 43-44]

قال تعالى:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾. [آل عمران ۱۵۹]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یہ محض اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو۔ اس کے برعکس اگر آپ بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ [آل عمران ۱۵۹]

Allah Ta'ala ne farmaya:

Yeh mahez Allah ki rehmat ka nateeja hai ke aap logon ke liye narm bana diye gaye ho. Is ke bar-aks agar aap bad-mizaaj aur sakht dil hote to yeh log aap ke paas se chatt jate. [aale-Imran 159]

قال تعالى:

﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾. [هود ۱۱۵]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آپ صبر کرتے رہیں؛ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ [ہود ۱۱۵]

10-Sabr w intizaar

Allah Ta'ala ne farmaya:

Aap sabr karte rahein; yaqeenan Allah Ta'ala neki karne walon ka ajr zaye nahi karta. [Hood 115]

قال رسول الله ﷺ في أهل طائف:

«بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».

[خ: بدء الخلق ۳۲۳۱ - م: الجهاد والسير ۱۱۱ - (۱۷۹۵)] عن عائشة

اللہ کے رسول ﷺ نے طائف والوں کے بارے میں فرمایا:

بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ [بخاری و مسلم]

Allah ke Rasool ﷺ ne Taif waloon ke bare mein farmaya:

Balke mein ummeed karta hoon ke Allah Ta'ala in ki nasal se aise log paida kare ga jo akele Allah ki ibadat karenge aur us ke sath kisi ko shareek na thehrayenge.

[Bukhari w Muslim]



تعلیم و تربیت کے بعض اصول

Ta'leem-o-Tarbiyat Ke Baaz Usool

قال تعالى:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: ۱۶۴]

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ [آل عمران: ۱۶۴]

Allah Ta'ala ka farmaan hai:

Allah Ta'ala ne ahle imaan par bahot bada ahsaan farmaya jab un ke darmiyan unhi mein se ek rasool mab'ooos farmaya jo un ke samne Allah ki aayaat tilaawat karta hai, un ka tazkiya karta hai aur unhen kitaab o hikmat ki taleem deta hai. halanke is se pehle woh khuli gumraahi mein pade huwe the. [aale Imran: 164]

قال رسول الله ﷺ:

«إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لَوْلَدِهِ، أُعَلِّمُكُمْ».

(حم د ن ه واللفظ له حب) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. [صحيح الجامع ۲۳۴۶] (حسن)

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ [مسند احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان]

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

Mein tumhare liye baap ki tarah hoon, mein tumhe taaleem deta hoon.

[Musnad ahmad , Abu Dawood, Ibne Majah, Ibne Hibban]

۱۔ تعلیم میں آسانی پیدا کرنا

قال ﷺ:

«إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعْتَنًا وَلَا مُتَعْتَنًا^(۱) وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُبْسِرًا». [م: الطلاق ۲۹ - (۱۴۷۸)]

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت مزاج بنا کر یا سختی چاہنے والا بنا کر نہیں بھیجا ہے بلکہ مجھے آسانی پیدا کرنے والا، معلم بنا کر بھیجا ہے۔ [مسلم]

1-Taaleem mein aasaani paida karna

Allah ke rasool ﷺ ne farmaya:

Allah Ta'ala ne mujhe sakht mizaaj bana kar ya sakhti chahne wala bana kar nahi bheja hai balke mujhe aasaani paida karne wala, mu'allim bana kar bheja hai.

[Muslim]

قال ﷺ:

«يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا».

[خ: العلم ۶۹ - م: الجهاد والسير ۸ - (۱۷۳۴)] واللفظ للبخاري

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

آسانی پیدا کرو، مشکل نہیں! لوگوں کو رغبت دلاؤ، نفرت نہیں! [بخاری و مسلم]

Allah ke rasool ﷺ ne farmaya:

aasaani paida karo, mushkil nahi! logon ko raghat dilao, nafarat nahi!

[Bukhari w Muslim]

۱ قال المناوي: (إن الله لم يبعثني معتنًا) أي شقاء على عباده (ولا متعتنًا) بتشديد النون مكسورة أي طالب للعتن وهو العسر والمشقة

قال ﷺ:

«الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ».

(۴ ك) عَنْ بَرِيدَةَ. [صحيح الجامع ۴۴۴۶] (صحيح)

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

قاضی (فیصلہ کرنے والے) تین ہیں۔ دو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ ایک وہ شخص ہے جس نے حق کے مطابق فیصلہ دیا، پس وہ جنت میں جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے (علم کے بغیر ہی) محض جہالت کی بنیاد پر فیصلہ دے دیا تو یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن فیصلہ کرنے میں ظلم و زیادتی کی تو یہ شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ [ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم]

2-Ilm ki baaton ko shumaar karna

Allah ke rasool ﷺ ne farmaya:

qaazi (faisla karne wale) teen hain. do jahannam mein jayenge aur ek jannat mein. ek woh shakhs hai jis ne haq ke mutabiq faisla diya, pas woh jannat mein jayega. dusra woh shakhs hai jis ne (ilm ke bagair hi) mahez jahalat ki bunyaad par faisla de diya to yeh shakhs jahannam mein jayega. teesra woh shakhs hai jis ne haq ko pehchana lekin faisla karne mein zulm o ziyadati ki to yeh shakhs bhi jahannam mein jayega. [Abu Dawood, Tirmizi, Nasai, Ibne Majah, Hakim]

۳۔ تعلیم سے قبل سوال پوچھ کر متوجہ کرنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ فَذَلِكَ الرَّبَاطُ! فَذَلِكَ الرَّبَاطُ! فَذَلِكَ الرَّبَاطُ!»

[م: الطهارة ۴۱ - (۲۵۱)]

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹاتا ہے اور درجات اونچے کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا: ضرور، اے اللہ کے رسول! فرمایا: مشقتوں کے باوجود کامل وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ رباط^(۱) ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے! [مسلم]

3-Taaleem se qabl sawaal pooch kar mutawajjah karna

Abu Huraira رضی اللہ عنہ se riwayat hai ke:

Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya: kya mein tumhe aisa amal nah bata'oon ke jis ke zariya Allah Ta'ala khataon ko mitata hai aur darajaat unche karta hai? sahaba ne kaha: zaroor, aye Allah ke rasool ﷺ! farmaya: mashaqqaton ke bawajood kaamil wuzu karna, masjid ki taraf kasrat se qadam uthana aur ek namaz ke baad dusri namaz ka intzaar karna. yeh Ribaat hai, yeh Ribaat hai, yeh Ribaat hai!

[Muslim]

^۱ رباط اسلامی سرحدوں پر پہریداری کو کہتے ہیں۔

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعْصِيَةِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ. ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: ٤٤]

(حم طب هب) عن عقبة بن عامر. [صحيح الجامع ٥٦١] (صحيح)

عقبہ بن عامر ﷺ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں

کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں (میں پڑے رہنے) کے باوجود دنیا میں اس کی پسندیدہ چیزیں عطا کر رہا ہے تو (سمجھ لو کہ) یہ استدراج (یعنی ڈھیل) ہے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾

جب انھوں نے ان تمام نصیحتوں کو پس پشت ڈال دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے بھی ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ یہاں تک کہ جب وہ ان دی ہوئی نعمتوں پر خوش ہو کر اترانے لگے تو ہم نے انہیں اچانک

پکڑ لیا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ [مسند احمد، طبرانی، شعب الایمان]

4-Apni baat ki Daleel dena

Abu Huraira رضی اللہ عنہ se riwayat hai ke:

Uqba bin Aamir رضی اللہ عنہ Nabi e Kareem ﷺ se riwayat karte hain ke aap ﷺ ne farmaya: jab tum dekho ke Allah Ta'ala bande ko gunahon (mein pade rehne) ke bawajood duniya mein us ki pasandeeda cheeze ataa kar raha hai to (samajh lo ke) yeh istidraaj (yaani dheel) hai. phir aap ﷺ ne yeh aayat tilawat farmai:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾

Jab unhone un tamam nasihaton ko pas e pusht daal diya jo unhen ki gayi thi to hum ne bhi un ke liye har cheez ke darwaze khol diye. yahan tak ke jab woh un di hui nematon par khush ho kar itraane lage to hum ne unhen achanak pakad liya aur woh mayoos ho kar reh gaye. [Musnad Ahmad, Tabrani, shu'abul emaan]

۵۔ بات کی وضاحت کے لیے مثال بیان کرنا

قال ﷺ:

«مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ كَمَثَلِ الَّذِي يَكْنِزُ الْكَنْزَ فَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ» (۱)

(طس) عن أبي هريرة. [صحيح الجامع ۵۸۳۵] (صحيح)

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

جو شخص علم سیکھے لیکن اسے دوسروں تک نہ پہنچائے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خزانہ ہو لیکن اس میں سے (اللہ کی راہ) میں خرچ نہ کیا جائے۔ (یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔) [طبرانی فی الاوسط]

5-Baat ki wazaahat ke liye misaal bayan karna

Allah ke rasool ﷺ ne farmaya:

Jo shakhs ilm sekhe lekin use dusron tak nah pohncchaye us ki misaal aisi hai jaise ek khazana ho lekin us mein se (Allah ki raah) mein kharch nah kiya jaye. (yaani us ki zakat adaa nah ki jaye.) [Tabrani fil Ausat]

۱ فی کون کل منهما یكون وبالاً علی صاحبه یعذب علیہ یوم القیامة

۶۔ اپنے اطراف کی دنیا سے عبرت لینا سیکھانا

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحَلِيفَةِ، فَإِذَا هُوَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ شَائِلَةٍ بِرِجْلِهَا. فَقَالَ: «أَتُرُونَ هَذِهِ هَيِّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا؟» [وفي رواية: قَالُوا: نَعَمْ] (۱)، «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً أَبَدًا». (ت هـ) [صحيح الجامع ۵۲۹۲ - صحيح الترغيب ۳۲۴۰] (صحيح لغيره)

سہل بن سعدؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں:

ہم اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ ذوالحلیفہ کے مقام پر تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک مردہ بکری پھول کر ٹانگیں اوپر کیے پڑی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں کیا لگتا ہے، یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک بے قیمت ہے؟ [ایک روایت میں ہے: صحابہ نے کہا: ہاں۔] آپ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس میں سے ایک قطرہ بھی پینے نہ دیتا۔ [ترمذی، ابن ماجہ]

6-Apne atraaf ki duniya se lbrat lena sikhana

Sahl bin Saad ﷺ se riwayat hai, farmate hain:

hum Allah ke Rasool ﷺ ke sath zul-hulaifah ke maqaam par the. hum ne dekha ke ek murda bakri phool kar taangen upar kiye padi hai. Aap ﷺ ne farmaya: tumhe kya lagta hai, yeh bakri apne maalik ke nazdeek be qeemat hai? [ek riwayat mein hai: sahaba ne kaha: haan.] aap ﷺ ne farmaya: us zaat ki qasam jis ke haath mein meri jaan hai, agar duniya ki qeemat Allah ke nazdeek machchar ke par ke barabar bhi hoti to Allah Ta'ala kafir ko is mein se ek qatra bhi peene nah deta.

[Tirmizi, Ibne Majah]

۷۔ بات کی وضاحت کے لیے خاکہ بنانا

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَطَّ خَطًّا هَكَذَا أَمَامَهُ، فَقَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». وَخَطَّ خَطًّا عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطًّا عَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ: «هَذِهِ سُبُلُ الشَّيْطَانِ». ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. [الأنعام: ۱۵۳] [السنة لابن أبي عاصم] [ظلال الجنة ۱۶] (صحيح)

جابر بن عبد اللہ رضي الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں:

ہم اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس طرح اپنے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی۔ پھر ایک لکیر اس کے دائیں طرف اور دوسری اس کے بائیں طرف کھینچی، پھر اور فرمایا: یہ شیطان کے راستے ہیں۔ پھر درمیانی لکیر پر اپنا ہاتھ رکھا اور یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

اویہ میرا سیدھا راستہ ہے تم اسی کی پیروی کرو، اور (اس راہ کو چھوڑ کر) دوسری راہوں کی پیروی نہ کرنے لگو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ وصیت فرماتا ہے تاکہ تم محفوظ رہو۔ [الانعام ۱۵۳]
[السنة لابن أبي عاصم]

7-Baat ki wazaahat ke liye khaka banana

Jabir bin Abdullah رضي الله عنه se riwayat hai, farmate hain:

hum Allah ke nabi صلى الله عليه وسلم ke paas baithe huwe the. aap ne is tarah apne samne ek seedhi lakeer kheenchi. phir ek lakeer us ke dayen taraf aur dusri us ke bayen taraf kheenchi, phir farmaya: yeh shaitan ke raste hain. phir darmiyaani lakeer par apna haath rakha aur yeh aayat tilaawat farmai:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

aur yeh mera seedha rasta hai tum isi ki pairwi karo, aur (is raah ko chhod kar) dusri raahon ki pairwi nah karne lago, woh tumhe Allah ki raah se door kar den gi. Allah Ta'ala tumhe yeh wasiyyat farmata hai taake tum mehfooz raho.

[al an-aam 153] [as sunnah li ibne abi aasim]

۸۔ قصوں کے ذریعہ نصیحت کرنا

قال ﷺ:

«بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَزَعَتْ مُوقَهَا، فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَنَتْهُ إِيَّاهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ». [خ: أحاديث الأنبياء ۳۴۶۷ - م: السلام ۱۵۵ - (۲۲۴۵)] اللفظ لمسلم

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

ایک کتا ایک کنویں کے اطراف چکر لگا رہا تھا۔ اس کا حال یہ تھا کہ پیاس کی شدت سے اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ اس کے اس حال کو نبی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے دیکھا تو اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکال کر اسے پلایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت کر دی۔ [بخاری و مسلم]

8-Qisson ke zariye naseehat karna

Allah ke rasool ﷺ ne farmaya:

ek kutta ek kunwe ke atraaf chakkar laga raha tha. us ka haal yeh tha ke pyaas ki shiddat se us ki jaan hi nikal jaye gi. us ke is haal ko bani Israyeel ki ek zaniya aurat ne dekha to us ne apne chamde ke moze mein kunwe se pani nikaal kar use pilaya. is par Allah Ta'ala ne us aurat ki maghfirat kar di. [Bukhari w Muslim]

۹۔ عملی طور پر اعمال کا طریقہ سکھانا

عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي التَّيْمُمِ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا»! فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفِّهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِنَّمَا وَجْهَهُ وَكَفِّهِ. [خ: التيمم ۳۳۸ - م: الحيض ۱۱۲ - (۳۶۸)]

عمار رضی اللہ عنہ سے تیمم کے بارے میں روایت ہے، فرماتے ہیں: پس اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا: تمہارے لیے تو بس اتنا کافی تھا۔ اور اللہ کے نبی ﷺ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماریں، ان میں پھونکا اور پھر انہیں اپنے چہرے اور دونوں کفین (یعنی کلائیوں تک حصہ) پر پھیر دیا۔ [بخاری و مسلم]

9-Amali taur par aamaal ka tariqa sikhana

Ammar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ se tayammum ke baare mein rinwaayat hai, farmate hain:

pas Allah ke nabi ﷺ ne farmaya: tumhare liye to bas itna kaafi tha aur Allah ke nabi ﷺ ne apni dono hatheliyan zameen par maarien, un mein phunka aur phir unhen apne chehre aur dono kaffain (yaani kalaiyyon tak hisse) par pher diya.

[Bukhari w Muslim]

۱۰۔ جنت کا شوق اور جہنم کا خوف دلانا

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا تَرَى ظُهُورَهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونِهَا مِنْ ظُهُورِهَا»
فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ،
وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»

(حم حب هب) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ (ت) عَنْ عَلِيٍّ. [صحيح الجامع ۲۱۲۳] (حسن)

علی رضي الله عنه کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جنت میں ایسے بالاخانے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا، (یہ سن کر) ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا: اللہ کے رسول! کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جو اچھی طرح بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جب کہ لوگ سوئے ہوں۔ [مسند احمد، ابن حبان، شعب الایمان] عن ابی مالک الاشعری [ترمذی] عن علی

10-Jannat ka shauq aur jahannam ka khauf dilana

Ali رضي الله عنه kehte hain ke Nabi e Akram صلى الله عليه وسلم ne farmaya:

Jannat mein aise baalaa-khaane hain jin ka bairooni hissa andar se aur androoni hissa bahar se nazar ayega, (yeh sun kar) ek earaabi ne khade ho kar arz kiya: Allah ke rasool! kis ke liye hain? aap ne farmaya: jo achi tarah baat kare, khana khilaye, khoob roze rakhe aur Allah ki Raza ke liye raat mein namaz padhe jab ke log soye hon? [Musnad Ahmad, Ibne Hibban, Shu'abul emaan] an abi Malik al ash'ari [Tirmizi] an Ali

قال صلى الله عليه وسلم:

«الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ». [خ: الرِّقَاقِ ٦٤٨٨]

اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

جنت تم سے تمہاری جوتیوں کے تسموں سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسی طرح جہنم بھی۔ [بخاری]

Allah ke rasool صلى الله عليه وسلم ne farmaya:

Jannat tum se tumhari jootion ke tasmon se bhi ziyada qareeb hai aur isi tarah jahannam bhi. [Bukhari]

۱۱۔ برائیوں پر تنقید کے ساتھ ان کا علاج اور حل بھی بتانا

قال ﷺ:

«دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَّةِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ. هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَخْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَخْلِقُ الدِّينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. أَفَلَا أُبَيِّنُكُمْ بِمَا يُنْبِتُ ذَاكُمْ لَكُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ». (حم ت الضياء) عن الزبير [صحيح الجامع ۳۳۶۱ / ۱] (حسن)

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

تم سے پہلی امتوں کی ایک بیماری تمہارے ہاں بھی آگئی ہے۔ حسد اور بغض! یہ چیز مونڈھ دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈھتی ہے، بلکہ دین کو مونڈھ دیتی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ اور واقعی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعہ تمہارے درمیان محبت پختہ ہو جائے؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ [مسند احمد، ترمذی، المختارہ]

11-Buraiyyon par tanqeed ke sath un ka ilaaj aur hal bhi bataanaa

Allah ke rasool ﷺ ne farmaya:

Tum se pehli ummaton ki ek beemaari tumhare haan bhi aa gayi hai. hasad aur bughz! yeh cheez mondh deti hai. mein yeh nahi kehta ke balon ko mondhthi hai, balke deen ko mondh deti hai. us zaat ki qasam jis ke haath mein meri jaan hai, tum us waqt tak jannat mein nahi ja sakte jab tak imaan nah le aao aur waqai imaan wale nahi ho satke jab tak ke aapas mein ek dusre se mohabbat nah karne lago. kya mein tumhe ek aisi cheez nah batau jis ke zariya tumhare darmiyan mohabbat pukhta ho jaye? aapas mein salaam ko aam karo.

[Musnad Ahmad, Tirmizi, al Mukhtarab]

۱۲- تعریف کے ذریعہ حوصلہ افزائی کرنا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ. أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ».

[خ: الرقاق ۶۵۷۰]

ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں:

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: حدیث کے بارے میں تمہاری حرص دیکھ کر مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ بات مجھ سے کوئی اور نہیں پوچھے گا۔ قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار شخص وہ ہوگا جس نے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو۔ [بخاری]

12-Taareef ke zariye hausla afzai karna

Abu Huraira رضي الله عنه se rivayat hai, farmate hain:

Mein ne kaha: aye Allah ke rasool ﷺ, qayamat ke din aap ki shafa'at ka sab se ziyada mustahiq kon hoga? Aap ﷺ ne farmaya: hadees ke bare mein tumhari hirs dekh kar mujhe yaqeen tha ke tum se pehle yeh baat mujh se koi aur nahi puchega. qayamat ke din meri sifarish ka sab se ziyada haqdaar shakhs woh hoga jis ne apne dil ke ikhlaas ke sath laa ilaha illallah ka iqraar kiya ho.

[Bukhari]

